

ADVICE FOR INVESTORS

INVESTMENT IN EQUITY SECURITIES AND EQUITY RELATED SECURITIES INVOLVES A CERTAIN DEGREE OF RISKS. THE INVESTORS ARE REQUIRED TO READ THE RIGHTS SHARE OFFER DOCUMENT (HEREIN REFERRED TO AS 'OFFER DOCUMENT') AND RISK FACTORS CAREFULLY, ASSESS THEIR OWN FINANCIAL CONDITIONS AND RISK-TAKING ABILITY BEFORE MAKING THEIR INVESTMENT DECISIONS IN THIS OFFERING.

RIGHT ENTITLEMENT LETTER IS TRADABLE ON PSX, RISKS AND REWARDS ARISING OUT OF IT SHALL BE SOLE LIABILITY OF THE INVESTORS.

THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR THE PURPOSE OF PROVIDING INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AND TO THE PUBLIC IN GENERAL IN RELATION TO THE RIGHTS ISSUE OF PKR 5,600,000,000/-, CONSISTING OF 32,000,000 NEW ORDINARY SHARES BY GATRON (INDUSTRIES) LIMITED. A COPY OF THIS DOCUMENT HAS BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES EXCHANGE.

THIS OFFER DOCUMENT IS VALID TILL MAY 14, 2024.



**Gatron (Industries) Limited
Right Share - Offer Document**

Date and place of incorporation: May 28, 1980, Pakistan, **Incorporation number:** 0007766.

Registered Office: Room No.32, First Floor, Ahmed Complex, Jinnah Road, Quetta – Balochistan.

Corporate Office: 11th Floor, G&T Tower, #18 Beaumont Road, Civil Lines-10, Karachi-Sindh

Contact No: +92-21-35659500, **Website:** www.gatron.com, **Contact Person:** Mr. Shameer Haroon, Phone: +92 21 35659518, **Email:** shameer@gatronova.com (To contact during business hours i.e. from Monday to Friday from 9:00 am to 5.15 pm and Saturday, 9:00 am to 2:00 pm.)

Issue Size: The Right Issue consists of 32,000,000 Right Shares (i.e. 41.7052% of the existing paid-up capital of Gatron (Industries) Limited) having a face value of PKR 10/- each, at an offer price of PKR 175/- each (i.e. including a premium of PKR 165/- per share). The total amount to be raised through the Right Issue is PKR 5,600,000,000/-

Date of Placing Offer Document on PSX for Public Comments: N/A (Public comments were not sought)

Date of Final Offer Letter: February 2, 2024

Date of Book Closure: From February 8, 2024 to February 12, 2024

Subscription Amount Payment Dates: From February 16, 2024 to March 15, 2024

Trading Dates for Letter of Rights: From February 16, 2024 to March 8, 2024

Details of the relevant contact persons:

	Name of the Person	Designation	Contact Number	Office Address	Email ID
Authorized Officer of the Issuer	Mr. Shameer Haroon	Divisional Head (Tax, Legal and Corporate Affairs)	+92 21-35659518	11 th Floor, G&T Tower, #18 Beaumont Road, Civil Lines-10, Karachi	shameer@gatronova.com
Underwriters					
Arif Habib Limited	Mr. Taha Siddiqui	Chief Financial Officer	+92 21 111245111	Arif Habib Limited 2/F, Arif Habib Centre 23, M.T. Khan Road, Karachi	taha.siddiqui@arifhabibltd.com
Dawood Equities Limited	Mr. Abdul Aziz Habib	Chief Executive Officer	+92 21 32275200	17 th Floor, Saima Trade Tower 'A', I.I. Chundrigar Road, Karachi	aziz@dawoodequities.com
Banker to the Issue					
Habib Metropolitan Bank Limited	Syed Mairaj Hassan	Team Leader Sales (South) Transaction Banking	+92 21 32644571	Transaction Banking, Mezzanine Floor, I.I. Chundrigar Road, Karachi	mairaj.hassan@habibmetro.com
Meezan Bank Limited	Mirza Ayub Baig	Senior Vice President Capital Markets / SBP Reporting Unit	+92 21-3640097	Meezan House, C-25, Estate Avenue, SITE, Karachi	ayub.baig@meezanbank.com

Website: This offer letter can be downloaded from:

<https://gatron.com/right-shares/>

<https://www.psx.com.pk>

G855506



200
Rupees

17 NOV 2023 (RUPEES TWO HUNDRED ONLY)

ANIL RAJESH STAMP VENDOR
 Market, Karachi
 THROUGH WITH ADDRESS MR. YVES RAMMOOD ALI RIZVI 51039
 THROUGH WITH ADDRESS MR. ADVOCATE HCH246
 VALUE RS: ATTACHED
 Vendor Not Responsible For Fake Docume:


UNDERTAKING BY THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

Date : 01-02-2024

WE, SHABBIR DIWAN, THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MUSTUFA BILWANI, THE CHIEF FINANCIAL OFFICER OF GATRON (INDUSTRIES) LIMITED CERTIFY THAT;

- (I) THE OFFER DOCUMENT CONTAINS ALL INFORMATION WITH REGARD TO THE ISSUER AND THE ISSUE, WHICH IS MATERIAL IN THE CONTEXT OF THE ISSUE AND NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT;
- (II) THE INFORMATION CONTAINED IN THE OFFER DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF;
- (III) THE OPINIONS AND INTENTIONS EXPRESSED THEREIN ARE HONESTLY HELD;
- (IV) THERE ARE NO OTHER FACTS, THE OMISSION OF WHICH MAKES THE OFFER DOCUMENT AS A WHOLE OR ANY PART THEREOF MISLEADING; AND
- (V) ALL REQUIREMENTS OF THE COMPANIES ACT, 2017, THE COMPANIES (FURTHER ISSUE OF SHARES) REGULATIONS, 2020, THE CENTRAL DEPOSITORY COMPANY AND THAT OF PSX PERTAINING TO THE RIGHT ISSUE HAVE BEEN FULFILLED.

FOR AND ON BEHALF OF GATRON (INDUSTRIES) LIMITED



SHABBIR DIWAN
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



MUSTUFA BILWANI
CHIEF FINANCIAL OFFICER

AC910994



SARDAR ALI STAMP VENDOR
 L16gees # 18, Shop # 68, SITE Market
 SITE: Karachi
 S.No: DATE:
 ISSUED WITH A VALUE OF **374953** Javed
 THROUGH WITH ADVOCATE Leg. #4103
 PURPOSE:
 VALUE RS: ATTACHED:
 STAMP VENDOR'S SIGNATURE:
 This Stamp Paper is not valid for Divorce & Free Will Purpose

16 NOV 2023

UNDERTAKING BY THE BOARD OF DIRECTORS (BOARD)

We, the Board of Directors of Gatron (Industries) Limited hereby confirm that:

- (i) All material information as required under the Companies Act, 2017, the Securities Act, 2015, Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Listing of Companies and Securities Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited has been disclosed in this offer document and that whatever is stated in offer document and in the supporting documents is true and correct to the best of our knowledge and belief and that nothing has been concealed.
- (ii) We undertake that all material information, including risks that would enable the investor to make an informed decision, has been disclosed in the offer document.
- (iii) Right Issue is the discretion of Board of the Issuer and it neither require approval of the Commission nor the Securities Exchange.
- (iv) The draft offer document was placed on the website of the Securities Exchange and the Issuer on December 29, 2023 (i.e. within 45 days of the date of announcement by the Board).
- (v) Comments from Securities Exchange and the SECP were received on 19-01-2024.
- (vi) The Board has ensured that draft offer document is updated in light of the Securities Exchange and SECP comments.
- (vii) The Board has disclosed on PSX's and Company's website, all the comments received along with the explanations as to how they are addressed.
- (viii) The final offer document was placed on Securities Exchange website on 02-02-2024 along with the book closure dates and relevant right issuance timelines. (i.e. within 20 working days from the date of receipt of comments of PSX & SECP).
- (ix) The Statutory Auditors M/s Kreston Hyder Bhimji & Co., Chartered Accountants, will monitor the proceed utilization if the issuance proceeds exceed Rs. 750 million or 50% of the paid-up capital of the listed company issuing Right Shares, whichever is higher.

 Abdul Razak Diwan	 Shabbir Diwan	 Zakaria Bilwani
 Muhammad Iqbal Bilwani	 Saqib Haroon Bilwani	 Muhammad Taufiq Bilwani
 Muhammad Altaf Bilwani	 Talat Iqbal	 Muhammad Tufail Iqbal
 Huma Rafique		

DISCLAIMER:

- i. In line with Companies Act, 2017 and Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, this document does not require approval of the Securities Exchange and the Securities Exchange Commission of Pakistan (SECP).
- ii. The Securities Exchange and the SECP disclaims:
 - a. Any liability whatsoever for any loss however arising from or in reliance upon this document to anyone, arising from any reason, including, but not limited to, inaccuracies, incompleteness and/or mistakes, for decisions and/or actions taken, based on this document.
 - b. Any responsibility for the financial soundness of the Company and any of its schemes/projects stated herein or for the correctness of any of the statements made or opinions expressed with regards to them by the Company in this Offer document.
 - c. Any responsibility w.r.t quality of the issue.
- iii. It is clarified that information in this Offer document should not be construed as advice on any particular matter by the SECP and the Securities Exchange and must not be treated as a substitute for specific advice.

GLOSSARY OF TECHNICAL TERMS AND DEFINITIONS

Banker to the Issue	Any bank with whom an account is opened and maintained by the Issuer for keeping the issue amount. Habib Metropolitan Bank Limited and Meezan Bank Limited have been appointed, in this Right Issue, as the Bankers to the Issue.
CDC	Central Depository Company of Pakistan Limited
CDS	Central Depository System
Company / Gatron / Issuer	Gatron (Industries) Limited
Companies Act	Companies Act, 2017
Commission / SECP	Securities & Exchange Commission of Pakistan
Ordinary Shares	Ordinary Shares of the Company having a face value of PKR10/- each.
PSX / Securities Exchange	Pakistan Stock Exchange Limited
PKR / Pak Rupees	Pakistani Rupees
Regulations	The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020
Right Issue / Issue	32,000,000 Right Shares representing 41.7052% of total paid-up capital of the Company.
Right Shares	Shares offered by a company to its members strictly in proportion to the shares already held in respective kinds and classes.
SHC	The Honorable High Court of Sindh at Karachi
Sponsors	A person who has contributed initial capital in the issuing company or has the right to appoint majority of the directors on the board of the issuing company directly or indirectly; A person who replaces the person referred to above; and A person or group of persons who has control of the issuing company whether directly or indirectly.
USD	United States Dollar

Table of Contents

1	SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE	8
1.1.	BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE.....	8
1.2.	PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS:.....	10
1.3.	FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE.....	11
1.4.	TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE	12
1.5.	DETAILS OF UNDERWRITERS.....	12
1.6.	COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS:.....	12
1.7.	FRACTIONAL SHARES.....	13
1.8.	IMPORTANT DATES	13
2	SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE.....	14
3	PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS.....	14
3.1.	PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY	15
3.2.	DIRECTORS DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES	16
3.3.	PROFILE OF SPONSOR OF THE COMPANY.....	18
4	FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER	19
4.1.	FINANCIAL HIGHLIGHTS OF THE ISSUER FOR THE LAST THREE YEARS.....	19
4.2.	FINANCIAL HIGHLIGHTS OF PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS.....	19
4.3.	DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS.....	20
4.4.	AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS..	20
4.5.	SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS	20
5	RISK FACTORS.....	22
5.1.	RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE	22
6	LEGAL PROCEEDINGS	26
6.1.	OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY.....	26
6.2.	ACTION TAKEN BY THE SECURITIES EXCHANGE AGAINST THE ISSUER OR ASSOCIATED LISTED COMPANIES OF THE ISSUER DURING THE LAST THREE YEARS DUE TO NONCOMPLIANCE OF THE ITS REGULATIONS.....	27
6.3.	ANY OUTSTANDING LEGAL PROCEEDING OTHER THAN THE NORMAL COURSE OF BUSINESS INVOLVING THE ISSUER, ITS SPONSORS, SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND ASSOCIATED COMPANIES, OVER WHICH THE ISSUER HAS CONTROL, THAT COULD HAVE MATERIAL IMPACT ON THE ISSUE	28
7	SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT	28
8	Annexure A (Board Resolution Authorizing Right Issue)....	29
9	SECP Comments on the Right Offer Document	33

1 SALIENT FEATURES OF THE RIGHT ISSUE

1.1. BRIEF TERMS OF THE RIGHT ISSUE

a)	Description of Issue:	Issuance of Right Shares to existing shareholders
b)	Size of the proposed Issue:	The Company shall issue 32,000,000 (Thirty Two Million) ordinary shares at a price of PKR 175/- (Pak Rupees One Hundred Seventy Five) per share, aggregating to PKR 5,600,000,000/- (Pak Rupees Five Billion Six Hundred Million).
c)	Face Value of the share:	PKR 10/-
d)	Basis of determination of price of the right issue:	The Right Issue is being carried out at a premium. Considering the current market price of the Company's shares, the premium charged over the par value is justified and is in line with market practice, in fact the same constitutes an approximate 24.49% discount on the last 3 (three) months (from the date of the decision of the Board to carry out the Issue) average trading share price ¹ .
e)	Proportion of new issue to existing shares with any condition applicable thereto:	41.7052 right shares for every 100 ordinary shares held i.e. 41.7052% of the existing paid-up capital of the company.
f)	Date of meeting of Board of Directors (BoD) wherein the right issue was approved:	Thursday, December 14, 2023
g)	Name of directors attending the Board Meeting ² :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mr. Abdul Razak Diwan, Chairman 2. Mr. Shabbir Diwan, Chief Executive Officer 3. Mr. Zakaria Bilwani, Non-Executive Director 4. Mr. Usman Habib Bilwani, Non-Executive Director 5. Mr. Muhammad Iqbal Bilwani, Non-Executive Director 6. Mr. Saqib Haroon Bilwani, Non-Executive Director 7. Mr. Muhammad Taufiq Bilwani, Executive Director 8. Mr. Muhammad Waseem, Independent Director 9. Mr. Talat Iqbal, Independent Director

¹ Last three months' average share price is PKR 231.75 per share (From September 14, 2023 to December 13, 2023)
Calculation of discount percentage: Three months average market price minus right share price of Rs. 175 divided by three months average price i.e. $(231.75-175)/231.75*100=24.49\%$.

² This Board existed at the time of announcement of declaration of Right Shares. Subsequently a new Board was constituted effective as of December 24, 2023. Please refer to Section 3 of the Offer Documents for the names of new directors.

h)	Brief purpose of utilization of right issue proceeds:	The proceeds from the Right Issue will be utilized to finance the Company's working capital requirements to ensure smooth operations and optimum sales levels, leading to sustained business growth.
i)	Purpose of the Right Issue - Details of the main objects for raising funds through present right issue:	<p>The purpose of the Right Issue is to finance the Company's working capital requirements, to ensure smooth operations and optimum sales levels, leading to sustained business growth. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholder return.</p> <p>In the country's current economic environment, where interest rates have increased significantly, funding the Company's working capital requirements largely through bank / financial institution debt is not a feasible or prudent option. Consequently, equity raised funds utilized for working capital purposes is a more prudent business and strategic approach, which will reduce finance costs. The same is expected to positively impact profitability, ultimately generating improved results for shareholders.</p>
j)	Minimum level of subscription (MLS):	None.
k)	"Application Supported by Blocked amount" (ASBA) facility, if any, will be provided for subscription of right shares	Not Applicable.

1.2 PRINCIPAL PURPOSE OF THE ISSUE AND FUNDING ARRANGEMENTS:

A	Details of the principal purpose of the Right Issue		
	<p>The purpose of the Right Issue is to finance the Company's working capital requirements, which is essential for sustained business growth. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholder return. Below is the break-up of utilization of the Right Issue proceeds:</p>		
	Purpose of the Issue	Amount (PKR)	% of Right Issue Proceeds
	Working Capital	5,600,000,000/-	100%

B	Additional disclosure relating to purpose of the Right Issue								
Activities that are classified as working capital	<p>The following are the broad activities that are classified as working capital, based on the Company's business / operations and requirements from time to time:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">PKR in '000 (estimated)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables & Receivables</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> </tr> <tr> <td>Manufacturing overheads</td> <td style="text-align: right;">1,600,000</td> </tr> </tbody> </table>			PKR in '000 (estimated)		Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables & Receivables	4,000,000	Manufacturing overheads	1,600,000
PKR in '000 (estimated)									
Procurement of raw and packing materials including Inventory and Vendors / Customers payables & Receivables	4,000,000								
Manufacturing overheads	1,600,000								
Basis of estimate of working capital requirement along with relevant assumptions	<p>The basis of estimation of the Company's working capital requirements are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historical data of the Company's operations and requirements - Current prevailing market rates vis-à-vis costs, taking into account inflation and market conditions. - Inventories days: 97 * - Receivable days: 56* - Payable days: 61* <p>* The above are based on the average of last three year Company's annual audited financial statements i.e from 2020-21 to 2022-23.</p>								
Reasons for raising additional working capital, substantiating the same with relevant facts and figures	<p>Working capital is being raised to sustain and grow the Company's business and volumes, with the aim of achieving optimum operations and sales levels. The Company has already expanded its annual capacity of manufacturing of yarn (based on 150 denier) from 38,800 metric tonnes to 86,280 metric tonnes in the last 6 (six) years and further capacity expansion is expected in the coming year, to make it 106,000 metric tonnes, which expansion is mainly being financed through long term loans. The working capital requirements of the Company have accordingly increased in line with enhanced plant capacity.</p> <p>In the country's current economic environment, where interest rates have increased significantly, funding the Company's working capital requirements largely through bank / financial institution debt is not a feasible or prudent option. Consequently, equity raised funds utilized for</p>								

		working capital purposes is a more prudent business and strategic approach, which will reduce the short term borrowings and consequently the finance cost.		
	Total envisaged working capital requirement in a tabular form, the margin money thereof and the portion to be financed by any bank(s) or otherwise.	Total envisaged working capital requirement	PKR 5,600,000,000/-	
		Margin Money	Not applicable	
		Portion to be financed by any bank(s) or otherwise.	Not applicable.	
	Cash Conversion Cycle in number of days for last three years			
		2020-21	2021-22	2022-23
		91	96	89

1.3. FINANCIAL EFFECTS ARISING FROM RIGHT ISSUE

Description	Measurement Unit	Pre-Issue	Post-Issue	Increase / (Decrease) in (%)*
Authorized Capital	PKR	1,300,000,000	1,300,000,000	NIL
Paid-up Capital*	PKR	767,289,600	1,087,289,600	41.71%
Number of Shares	Unit	76,728,960	108,728,960	41.71%
Total Equity	PKR	7,860,067,000	13,460,067,000	71.25%
Net Assets / Breakup value per share *	PKR	102.44	123.80	20.85%
Gearing Ratio**	Percentage	68%	56%	(12%)
Production Capacity				
Yarn (based on 150 Denier)	Metric Ton	86,280	86,280	Nil
Preforms (based on 27 grams)	Metric Ton	31,512	31,512	Nil
Knitting	Metric Ton	1,090	1,090	Nil
Market Share***	Percentage	27-30%	27-30%	Nil

Note:

*These numbers are taken from the audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2023. The breakup value is calculated as follows: Total Equity / No. of shares.

**Expected / Estimated: Net Debt (Total borrowings – Cash and bank balances) / Total Capital (Net Debt + Total Equity)

*** Expected / Estimated (domestic industry data taken from annual reports while import data has been taken from Pakistan Bureau of Statistic website)

1.4. TOTAL EXPENSES TO THE ISSUE

Underwriting Commission	0.25% (quarter percent)
Underwriter Take-up Commission	2.00%
Bankers to the Issue – Out of Pocket	PKR 100,000
CDC – Fresh Issue Fee	PKR 8,064,000
CDC – Annual Fees for Eligible Security (Listing Fee)	PKR 1,000,000
PSX Fee (0.2% of increase in paid-up capital)	PKR 640,000
SECP Supervisory Fee (10% of fees paid to PSX)	PKR 64,000
Auditor Fee for Auditor Certificates	PKR 200,000
Stamp duty on issuance of additional shares	Up to PKR 3,200,000
Printing costs	Up to PKR 500,000
Lawyers and consultation fees	PKR 3,000,000

1.5. DETAILS OF UNDERWRITERS

Name of the Underwriter	Amount Underwritten	Associated Company/Associated Undertaking of the Issuer
Arif Habib Limited	PKR 805,600,075/-	No
Dawood Equities Limited	PKR 249,999,925/-	No

1.6. COMMITMENTS FROM SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS/DIRECTORS:

Name of the person	Status (Substantial Shareholder/ Director)	Number of Shares Committed to be subscribed ³	Amount Committed to be Subscribed	Shareholding % - pre issuance	Shareholding % - post issuance ⁴
Mr. Abdul Razak Diwan	Director	480,390	4,803,900	0.63	0.44
Mr. Shabbir Diwan	Director	5,476,774	54,767,740	7.14	5.04
Mr. Zakaria Bilwani	Director	480,390	4,803,900	0.63	0.44
Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	Director	4,197,152	41,971,520	5.47	3.86
Mr. Saqib Haroon Bilwani	Director/ Substantial Shareholder	8,187,852	81,878,520	10.67	7.53
Mr. Muhammad Taufiq Bilwani	Director	3,016,600	30,166,000	3.93	2.77

³ These may be subscribed to through persons arranged by the said directors as permitted under the Regulations.

⁴ Subject to actual subscription of right entitlements (as stated above, the same may be subscribed by persons arranged by individuals) and / or subscription of additional shares.

Mr. Muhammad Altaf Bilwani	Director	1,119,194	11,191,940	1.46	1.03
Mr. Talat Iqbal	Director	75,682	756,820	0.10	0.07
Mr. Muhammad Tufail Iqbal	Director	500	5,000	0.00	0.00
Ms. Huma Rafique	Director	1,000	10,000	0.00	0.00
Mr. Rizwan Diwan	Substantial Shareholder	10,059,034	100,590,340	13.11	9.25

Note: The abovementioned directors / substantial shareholder are currently negotiating with Nova Frontiers Limited (being an associated company of Gatron) to subscribe to their respective entitlements (wholly or in part), as permitted under the applicable laws. Currently, Nova Frontiers Limited does not have any shareholding in the Company. Post issuance, Nova Frontiers Limited's shareholding in Gatron will depend on its subscription of shares, including from the entitlement of the directors / substantial shareholder of the Company.

1.7. FRACTIONAL SHARES

The Board of Directors of the Company have resolved in their meeting held on December 14, 2023 that all fractional entitlements, if any, will be consolidated in the name of the Company Secretary (under trust), and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the PSX, the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

1.8. IMPORTANT DATES

GATRON (INDUSTRIES) LIMITED			
Tentative Schedule for Issuance of Letter of Rights			
Book Closure: From February 8, 2024 to February 12, 2024 (both days inclusive)			
S. No.	Procedure	Day	Date
a)	Date of credit of unpaid Rights into CDC in Book Entry Form	Tuesday	February 13, 2024
b)	Dispatch of Letter of Right (LOR) to physical shareholders	Thursday	February 15, 2024
c)	Intimation to PSX for dispatch/ credit of Letter of Rights (LOR) to physical shareholders	Thursday	February 15, 2024
d)	Commencement of trading of unpaid Rights on PSX	Friday	February 16, 2024
e)	Last date for splitting and deposit of requests into CDS	Wednesday	February 28, 2024
f)	Last date of trading of letter of Rights	Friday	March 8, 2024
g)	Payment of subscription amount start date	Friday	February 16, 2024
h)	Last date for acceptance of payment	Friday	March 15, 2024
i)	Allotment of shares and credit of Shares into CDS	Thursday	April 4, 2024
j)	Date of dispatch of physical shares certificates	Monday	April 15, 2024

2 SUBSCRIPTION AMOUNT PAYMENT PROCEDURE

- a) Payment as indicated above should be made by cash or crossed cheque or demand draft or pay order made out to the credit of "Gatron (Industries) Limited - Right Shares Subscription Account" through any of the authorized branches of above-mentioned bank(s) on or before March 15, 2024 along with this Right Subscription Request duly filled in and signed by the subscriber(s).
- b) Right Subscription Request can be downloaded from the Company's website <https://gatron.com/right-shares>
- c) In case of Non-Resident Pakistani / Foreign shareholder, the demand draft of equivalent amount in Pak Rupees should be sent to the Company Secretary, Gatron (Industries) Limited at the Liaison / Correspondence office of the Company at 11th Floor, G&T Tower, # 18, Beaumont Road, Civil Lines – 10, Karachi – 75530, Pakistan along with Right Subscription Request (both copies) duly filed and signed by the subscriber(s) with certified copy of NICOP / Passport well before the last date of payment.
- d) All cheques and drafts must be drawn on a bank situated in the same city where Right Subscription Request is deposited. Cheque / Pay order / Draft is subject to realization.
- e) The Bankers to the Issue will not accept Right Subscription Request delivered by post which may reach after the closure of business on March 15, 2024, unless evidence is available that these have been posted before the last date of payment.
- f) Payment of the amount indicated above to the Issuer's Banker(s) to the Issue on or before on March 15, 2024, shall be treated as acceptance of the Right offer.
- g) After payment has been received by the Company's Banker(s) to the Issue, the Right Securities will be credited into respective CDS Accounts within 14 business days from the last payment date. Paid Right Subscription Request will not be traded or transferred.
- h) Online Payment option for IAS Account Holders/Sub Account Holders:

CDC has introduced online payment facility through 1link for Rights Subscription. The investor account holders can now make online payment for their respective rights subscribed against 1Bill payment ID printed on the top right of the subscription request (generated by CDS) through all the available online banking channels of 1Links member banks (such as internet banking, Automated Teller Machine (ATM) and Mobile banking).

3 PROFILES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND SPONSORS

BOARD OF DIRECTORS		
Name	Position	Date of Appointment
Mr. Abdul Razak Diwan	Chairman	24-12-2023
Mr. Shabbir Diwan	Chief Executive Officer	24-12-2023
Mr. Zakaria Bilwani	Non-Executive Director	24-12-2023
Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	Non-Executive Director	24-12-2023
Mr. Saqib Haroon Bilwani	Non-Executive Director	24-12-2023
Mr. Muhammad Taufiq Bilwani	Executive Director	24-12-2023
Mr. Muhammad Altaf Bilwani	Non-Executive Director	24-12-2023
Mr. Talat Iqbal	Independent Director	24-12-2023
Mr. Muhammad Tufail Iqbal	Independent Director	24-12-2023
Ms. Huma Rafique	Independent Director	24-12-2023

3.1. PROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

Mr. Abdul Razak Diwan – Non- Executive Director, Since - 1980

Mr. Abdul Razak Diwan is a Bachelor of Commerce and is a founding member of Gatron (Industries) Limited. He has also been the Director of Finance of the Company since its incorporation. He is the Governor of the Gatron Foundation, a company incorporated for charitable purposes. Mr. Abdul Razak Diwan was the Honorary Chairman of Memon Medical Institute & Hospital, a donor-funded multidisciplinary hospital established to cater to the healthcare and education needs of the society at large.

Mr. Shabbir Diwan – Executive Director, Since - 1983

Mr. Shabbir Diwan, the Chief Executive Officer of the Company, has an MBA degree from the Institute of Business Administration, University of Karachi. He is also the Chairman of the Pakistan Business Council and a director of Lotte Chemical Pakistan Limited. He is a member of the Board of Governors of “Patients Aid Foundation” of Jinnah Postgraduate Medical Centre, the second largest government hospital in Karachi. In addition, he is a member of the Board of Governors of Memon Medical Institute & Hospital.

Mr. Zakaria Bilwani - Non-Executive Director, Since - 1984

Mr. Zakaria Bilwani, a Commerce Graduate, has been serving as a Director on the Board of Gatron since 1984. His enduring commitment to the Company and his non-executive role highlights his steady contribution to the strategic direction and governance of the Company over the years.

Mr. Iqbal Bilwani - Non-Executive Director, Since – 1982

Mr. Iqbal Bilwani is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan since 1978 and brings a wealth of financial expertise to his role on the Board of Gatron. In addition to his directorial responsibilities, Mr. Iqbal Bilwani plays a vital role in the oversight and governance of Gatron as a member of the company's Audit Committee. His extensive experience and commitment to excellence contribute significantly to Gatron's standing as the largest producer of Polyester Filament Yarn in Pakistan.

Mr. Saqib Haroon Bilwani - Non-Executive Director, Since - 2022

Mr. Saqib Haroon Bilwani has an MBA degree from the Institute of Business Administration, University of Karachi. He is a family member of the Ghani & Tayub Group. He is a Trustee and Member of the Executive Board of Memon Health and Education Foundation. Mr. Bilwani also served on the Managing Committee of the Pakistan Hosiery Manufacturers Association.

Mr. Muhammad Taufiq Bilwani - Executive Director, Since - 2013

Mr. Muhammad Taufiq Bilwani is a Graduate of Mechanical Discipline from N.E.D University of Engineering & Technology. He is an Executive Director on the Board of Gatron since July 2013 and has been the Chief Officer of Plant Operations since 1983. He obtained Certification under the Director’s Training Program offered by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan in 2013. He was also a Member of the Executive Committee of Pakistan Engineering Council, the Vice President of the Lasbela Chamber of Commerce and Industry and a Member of the Institute of Engineers Pakistan.

Mr. Muhammad Altaf Bilwani – Non-Executive Director, Since - 2023

Mr. Muhammad Altaf Bilwani has recently been elected as Director of the Company. He has completed his bachelor’s degree in mechanical engineering from USA in 1995. Subsequently, Mr. Altaf Bilwani furthered his education by completing a Master’s in Business Administration from the Institute of Business Administration in 1999.

With a solid educational foundation encompassing both technical and business disciplines, Mr. Muhammad Altaf Bilwani brings a unique blend of engineering insight and business acumen to the leadership team of Gatron. His diverse skill set contributes well to the strategic direction and decision-making processes of the Company.

Mr. Talat Iqbal - Independent Director, Since - 2020

Mr. Talat Iqbal holds a degree in Business Administration & Commerce from the University of Karachi. He also holds a Legum Baccalaureate degree in Law from the University of Karachi. He has vast experience in information technology, commerce and trade. He has obtained Certification under the Directors' Training Program offered by the Pakistan Institute of Corporate Governance in 2021.

Mr. Muhammad Tufail Iqbal – Independent Director, Since - 2023

Mr. Muhammad Tufail Iqbal is an associate member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan and is also a chartered certified accountant from Association of Chartered Certified Accountants. He is an experienced finance and tax professional with more than thirteen years of expertise in the field of financial trade, corporate finance and taxation.

Ms. Huma Rafique - Independent Director, Since - 2020

Ms. Huma holds an MBA degree from the Institute of Business Management, Karachi and is also a Director at Netline (Pvt.) Ltd. She has experience of over 12 years in the corporate sector ranging from FMCGs, consultancies and the education sector. She is currently also serving as Manager Admin & Human Resources at the Baitussalam Masjid School, Islamabad and is a member of its advisory committee. She has been an editor of the Baitussalam Bulletin, Baitussalam Publications since 2014 and is also a strategic policy advisor on administrative and human resource related matters at Raudhtaussalam School. She has attended, organized, and conducted various personal and professional capacity-building workshops and has obtained Certification under the Directors' Training Program offered by the Pakistan Institute of Corporate Governance in 2021.

3.2. DIRECTORS' DIRECTORSHIP IN OTHER COMPANIES

S. No.	Name	Designation	Directorship in Other Companies
01	Mr. Abdul Razak Diwan	Chairman/Director	Global Synthetics Limited Gatron Foundation (NPO) Novatex Limited Ghani & Tayub (Private) Limited G-pac Corporation
02	Mr. Shabbir Diwan	Chief Executive Officer/Director	Global Synthetics Limited Gatro Power (Private) Limited G-Pac Energy (Private) Limited Gatron Foundation (NPO) Novatex Limited Nova Frontiers Limited Nova Care (Private) Limited Lotte Chemicals Pakistan Limited
03	Mr. Zakaria Bilwani	Non-Executive Director	Global Synthetics Limited
04	Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	Non-Executive Director	Global Synthetics Limited Gatro Power (Private) Limited Gatron Foundation (NPO) Ghani & Tayub (Private) Limited Novatex Limited Novatex Power (Private) Limited NRG Energy (Private) Limited Nova Powergen Limited

05	Mr. Saqib Haroon Bilwani	Non-Executive Director	Gatron Foundation (NPO) Global Synthetics Limited Novatex Limited Krystopac Energy (Private) Limited Nova Powergen Limited G&T Tyres (Private) Limited Nova Mobility (Private) Limited Nova Care (Private) Limited Mustaqim Dyeing Printing Industries (Private) Limited PWR Power (Private) Limited Gatlene Industries (Private) Limited G&T Global (Private) Limited ThalNova Power Thar (Private) Limited
06	Mr. Muhammad Taufiq Bilwani	Executive Director	Global Synthetics Limited G-Pac Energy (Private) Limited
07	Mr. Muhammad Altaf Bilwani	Non-Executive Director	Novatex Limited NRG Energy Limited Krystosoft (Private) Limited G&T Motors (Private) Limited G&T Mobility (Private) Limited Ennovate Mobility (Private) Limited Nova Frontiers Limited Bounti Garments Industries (Pvt.) Ltd.
08	Mr. Talat Iqbal	Independent Director	None
09	Mr. Muhammad Tufail Iqbal	Independent Director	None
10	Ms. Huma Rafique	Independent Director	Netline (Private) Limited

3.3. PROFILE OF SPONSOR OF THE COMPANY

Mr. Shabbir Diwan

Mr. Shabbir Diwan, along with his family members has a 10.51% shareholding in the Company. Please see Section 3.1 (*Director's Profile*) above, for further details on Mr. Shabbir Diwan.

Mr. Muhammad Iqbal Bilwani

Mr. Iqbal Bilwani, along with his family members has a 9.97% shareholding in the Company. Please see Section 3.1 (*Director's Profile*) above, for further details on Mr. Iqbal Bilwani.

Mr. Saqib Haroon Bilwani

Mr. Saqib Haroon Bilwani has a 10.67% shareholding in the Company. Please see Section 3.1 (*Director's Profile*) above, for further details on Mr. Saqib Bilwani.

Mr. Rizwan Diwan

Mr. Rizwan Diwan along with his family members has a 13.74% shareholding in the Company. Mr. Rizwan Diwan is a family member of the Ghani & Tayub Group, a 75-year-old business group, involved in polyester textile, PET packaging, cotton textile, retail, electric mobility and energy with operations in the Middle East and North America as well.

He is the Chief Executive Officer of Novatex Limited, which is in the business of virgin and recycled PET Resin, preforms, bottles and BOPET film and the largest non-textile exporter of Pakistan. Over the last 30 years he has led many innovations in the field of rigid & flexible packaging in Pakistan as well as in the region.

Mr. Diwan has been on the Board of Directors of Engro Corporation since 2018 and serves on their investment and Audit Committees. He also joined the Board of The Citizens Foundation in 2022 and serves on their Audit and Human Resource Committees. He is a member of the Board of Trustees of Memon Health & Education Foundation, a non-profit organization providing educational and healthcare services to the people of Karachi.

Mr. Diwan has taught entrepreneurship at the Institute of Business Administration, Karachi which is his alma mater from where he holds a Masters degree in Business Administration.

Ghani & Tayub (Private) Limited

Ghani & Tayub (Private) Limited is a leading commercial importer and trading house in Pakistan which has a 4.22% shareholding in the Company. Since its incorporation on April 16, 1955, it has been exploring different ways to develop new products to enrich its diverse supply chain, trading in plastic molding compounds such as HDPE, P.P, LDPE, LLDPE, industrial chemicals, food grains and pulses.

Names of Directors and percentage of Shareholding:

Name	Designation	% Shareholding
Mr. Pir Muhammad Diwan	Director	13.22
Mr. Abdul Razak Diwan	Director	17.64
Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	Director / Chief Executive Officer	7.91
Mr. Muhammad Arif Bilwani	Director	0.29

4 FINANCIAL DETAILS OF THE ISSUER

4.1 FINANCIAL HIGHLIGHTS OF ISSUER FOR LAST THREE YEARS

(Amount in Rs.)

Description	FY 2022-2023	FY 2021-2022	FY 2020-2021
Name of statutory Auditor	M/s. Kreston Hyder Bhimji & Co	M/s. Kreston Hyder Bhimji & Co	M/s. Kreston Hyder Bhimji & Co
Gross Revenue/Sale	27,383,780,000	23,959,654,000	16,557,561,000
Gross Profit	1,453,630,000	3,176,386,000	1,866,775,000
Profit before interest & Tax	553,468,000	2,646,192,000	1,316,094,000
Profit before Tax	551,276,000	2,559,215,000	1,301,765,000
Net Profit	205,300,000	1,827,244,000	1,065,724,000
Unappropriated Profit	709,132,000	3,754,151,000	1,937,862,000
Total Assets	37,576,814,000	23,671,263,000	14,860,320,000
Total Liabilities	29,716,747,000	15,899,822,000	8,905,168,000
Net Equity	7,860,067,000	7,771,441,000	5,955,152,000
Break-up value Per Share	102.44	202.57	155.23
Earnings per share	2.68	23.81 (restated)	27.78
Dividend Announced	115,093,000	NIL	NIL
Bonus Issue	383,645,000	NIL	NIL

4.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR PRECEDING ONE YEAR OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Name of statutory Auditor	M/s. Kreston Hyder Bhimji & Co
Name of companies for which consolidated financial statements are prepared	Gatro Power (Private) Limited Global Synthetics Limited G-PAC Energy (Private) Limited
Gross Revenue/Sale	27,383,780,000
Gross Profit	2,000,266,000
Profit before interest & Tax	1,306,163,000
Profit before Tax	96,508,000
Net Loss	(249,468,000)
Accumulated Profit	2,179,798,000
Total Assets	40,702,111,000
Total Liabilities	31,086,378,000
Net Equity	9,615,733,000
Break-up value Per Share	125.32
(Loss) per share	(3.25)
Dividend Announced	115,093,000
Bonus Issue	383,645,000

4.3. DETAILS OF ISSUE OF CAPITAL IN PREVIOUS FIVE YEARS

	FY 2023	FY 2022	FY 2021	FY 2020	FY 2019
Right issue	None	None	None	None	None
Bonus Issue	100% 38,364,480 Shares issued	None	None	None	None

4.4. AVERAGE MARKET PRICE OF THE SHARE OF THE ISSUER DURING THE LAST SIX MONTHS

Average market price of the share of the Company during the last six months (from June 12, 2023 to December 13, 2023) is PKR 230.61/- per share.

4.5. SHARE CAPITAL AND RELATED MATTERS

Pattern of Shareholding of the Issuer

Shareholders	Shares Held	(%)
Directors, Chief Executive Officer, their Spouse(s) and Minor Children		
Mr. Abdul Razak Diwan	480,390	0.63
Mr. Shabbir Diwan	5,476,774	7.14
Mr. Zakaria Bilwani	480,390	0.63
Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	4,197,152	5.47
Mr. Saqib Haroon Bilwani	8,187,852	10.67
Mr. Muhammad Taufiq Bilwani	3,016,600	3.93
Mr. Muhammad Altaf Bilwani	1,119,194	1.46
Mr. Talat Iqbal	75,682	0.10
Mr. Muhammad Tufail Iqbal	500	0.00
Ms. Huma Rafique	1,000	0.00
Associated Companies, undertakings and related parties		
Ghani & Tayub (Private) Limited	3,240,774	4.22
NIT and ICP	1,200	0.00
Banks, Development Financial Institutions, Non-Banking Financial Institutions	6,660	0.01
Insurance Companies	400	0.00
Share holders holding 10%	10,059,034	13.11
General Public (local and foreign)	27,838,106	36.28
Foreign Companies	12,542,880	16.35
Others (Trust & Funds and Joint Stock Companies)	4,372	0.01
Total	76,728,960	100%

Shares held by Directors, Sponsors and Substantial Shareholders of the Issuer (both Existing and Post Right Issue)

Shares held by	Existing Shareholding	%	Post Right Shareholding ⁵	%
Directors				
Mr. Abdul Razak Diwan	480,390	0.63	480,390	0.44
Mr. Shabbir Diwan	5,476,774	7.14	5,476,774	5.04
Mr. Zakaria Bilwani	480,390	0.63	480,390	0.44
Mr. Muhammad Iqbal Bilwani	4,197,152	5.47	4,197,152	3.86
Mr. Saqib Haroon Bilwani	8,187,852	10.67	8,187,852	7.53
Mr. Muhammad Taufiq Bilwani	3,016,600	3.93	3,016,600	2.77
Mr. Muhammad Altaf Bilwani	1,119,194	1.46	1,119,194	1.03
Mr. Talat Iqbal	75,682	0.10	75,682	0.07
Mr. Muhammad Tufail Iqbal	500	0.00	500	0.00
Ms. Huma Rafique	1,000	0.00	1,000	0.00
Sponsors/Substantial Shareholders				
Mr. Rizwan Diwan	10,059,034	13.11	10,059,034	9.25

⁵ Subject to the actual number of shares subscribed during the Right Issue (note that directors and subscribers may arrange for others to subscribe to their entitlements; furthermore, such persons may subscribe to additional shares offered by the Board).

5 RISK FACTORS

5.1. RISK ASSOCIATED WITH THE RIGHT ISSUE

1. Internal Risk Factors

Operational Risk

Operational risk summarizes the uncertainties and hazards a business faces when it attempts to conduct its day-to-day business activities specifically in relation to plant operation. It can result from breakdowns in internal procedures, people and systems.

A high turnover ratio of skilled staff, disruption in the Company's supply chain or inappropriate planning could be a major determinant to operational risk for the Company.

The Company is mitigating operational risk by implementing staff retention initiatives, including training and competitive benefits, to address high turnover. Additionally, the Company is adopting a diversified supply chain planning process and implementing robust strategies to counter disruptions in the supply chain.

Procurement Risk

As a prominent player in the yarn production industry, it is crucial to be cognizant of the inherent procurement risks associated with the business. The yarn production sector is particularly susceptible to raw material price fluctuations. Additionally, the volatility in currency exchange rates can impact the cost of raw materials. Our commitment to transparency involves acknowledging and mitigating these risks through proactive procurement strategies, supplier diversification and diligent monitoring of market dynamics.

Credit Risk

Credit risk represents the risk that one party to a financial instrument will cause to the other party by failing to discharge a financial obligation. The Company manages credit risk *inter alia* by setting credit limits in relation to individual customers and by obtaining advance against sales and also obtaining collateral, where considered necessary. The Company has established an allowance for doubtful trade debts that represents its estimate of incurred losses in respect of trade debts. Consequently, the Company believes that it is not exposed to any major concentration of credit risk.

Liquidity Risk

Liquidity risk is where an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities. The Company manages liquidity risk by maintaining sufficient cash and ensuring fund availability through adequate credit facilities. As at June 30, 2023 the Company has unutilized borrowing facilities of Rs.2,106 million in addition to balances at banks of Rs.335 million. Based on the above, the management believes the liquidity risk to be insignificant.

Risk of Non-compliance with Regulations of SECP and PSX

In the event of non-compliance with any regulatory requirements of SECP or PSX, the Company may be placed on the defaulter segment of PSX which may potentially hamper trading in the Company's shares and could lead to potential suspension in trading of its shares or delisting.

To mitigate the risk of non-compliance with SECP and PSX regulations, the Company has established an internal compliance framework, engages legal counsel for ongoing guidance, continuously monitoring regulatory changes and maintaining open communication with regulatory bodies. These measures collectively aim to ensure adherence to regulatory requirements.

2. External Risk Factors

Business Risk

Business risk is the possibility of the Company reporting lower than anticipated profits or loss due to factors such as:

- Increase in input costs such as raw materials
- Increase in conversion / utility costs
- Dumping of yarn into Pakistani market from foreign suppliers
- Removal of Regulatory Duty on Yarn
- Decrease in customer demand
- Reduction in operations rate

The Company is actively following strategies to mitigate business risk, including supplier diversification, cost predictability through analytics, and maintaining robust government relations.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in the market interest rates. The Company has short term borrowings on variable interest rates, exposing the Company to interest rate risk. When interest rates are high, borrowing costs increase, making it more expensive for the Company to finance its operations. This can lead to reduced business spending, lower economic growth, and decreased profitability. It also discourages business investment as financing new projects becomes more expensive.

The Company constantly monitors market interest rates and employs strategies to mitigate interest rate risk associated with short-term borrowings on variable rates. In light of the same, the Company intends to utilize the proceeds from the Right Issue to finance its working capital requirements, including with the intention of reducing its reliance on short term borrowings. This approach aims to ensure cost-effective financing and minimize the impact on business spending during periods of high-interest rates.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk represents the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. Foreign exchange risks arise mainly from future economic transactions or receivables and payables that exist due to transactions in foreign currencies. The Company is exposed to foreign exchange risk arising from currency value fluctuations, primarily with respect to the USD, Euro, CHF and JPY. However, the Company actively monitors markets and employs hedging instruments to minimize the impact on future cash flows, maintaining financial stability despite fluctuations in exchange rates.

Economic Slowdown

Slow down and/or deterioration of macroeconomic conditions could trigger a reduction in disposable incomes, compelling consumers to postponing their purchase. The growth of any sector is affected by the economic conditions prevailing in the country. An economic slowdown may adversely affect the growth and performance of the Synthetic and Rayon sector, as a whole. The prevalent economic scenario is on a downward spiral due to rising costs and inflation. However, to mitigate the potential impact of economic slowdown, the Company has implemented cost control measures and operational efficiencies to maintain financial resilience during challenging economic conditions.

Global Economic and Financial Market Risk

Due to ongoing geopolitical disruption causing high commodity prices, all major economies of the world including USA, UK and European countries are facing inflationary pressure. Some of the major global financial institutions are foreseeing signs of recession in major countries which may cause volatility in international financial markets. The ripple down effect may affect the Pakistani economy and financial markets adversely which could impact the overall macro condition of the country with limited ability of the government to secure new debt from international markets, which in turn could affect the PKR/USD parity. To mitigate global economic and financial market risks, the Company intends to diversify its revenue streams across regions to enhance overall financial resilience in the face of geopolitical uncertainties and economic fluctuations.

Regulatory Risk

Regulatory risk pertains to the possibility of future changes in government policies and regulations which could potentially impact the various business segments the Company operates in. Modifications in the regulatory landscape, such as change in import tariffs which have the potential to notably impact the industry's overall performance. Additionally, any change in regulatory duties or taxes related to the import of raw materials or finished products could directly affect the Company's profitability and operational efficiency.

Risk of Substitutes

The yarn manufacturing industry is confronted with potential substitute risks that may affect the demand for traditional yarn products. Issues such as the influx of Chinese Polyester Filament Yarn (PFY) and alternative textile materials pose challenges. Price sensitivity, global competition, and advancements in the textile industry also contribute to the complexity of substitute risks. Our Company stays adaptable, invests in research and development including investment in plant & machinery for recycling of used PET bottles into yarn, and considers sustainable practices to effectively navigate these challenges, ensuring the maintenance of a competitive position in the market.

3. Additional Risk Factors

Capital Risk Management

The Company's objectives in managing capital is to ensure the Company's ability to continue as a going concern so that it can continue to provide returns to shareholders and benefits for other stakeholders while maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital. The Company finances its operations through equity, borrowings and management of working capital with a view to maintaining an appropriate balance between the various sources of finance to minimize risk and cost. The Company is not exposed to any externally imposed capital requirement.

Profitability

The Company's after-tax profit for FY 2023 amounted to Rs. 205 million, compared to Rs. 1.827 billion in FY 2022. This decrease was primarily attributed to a severe political-economic crisis, constant dumped imports of Polyester Filament Yarn amid dwindling foreign exchange reserves and LC opening challenges. Moreover, the surge in the discount rate to a historic high of 22% led to elevated financial charges, impacting the bottom line after operating profit.



Negative Operating Cash Flow

The Company had negative operating cashflow in the last three preceding financial years as follows mainly due to increase in stock and debtors' position in correspondence to increase in value of products and sales:

	2022-23	2021-22	2020-21
Profit / (Loss) before Income Tax	551,276,000	2,559,215,000	1,301,765,000
Non Cash Items	1,045,116,000	701,402,000	617,517,000
Working Capital Changes	(891,029,000)	(3,122,800,000)	(2,246,032,000)
Other (Payments) / Receipts	(839,797,000)	(542,752,000)	(450,706,000)
Cashflow from / (to) operating activities	(134,434,000)	(404,935,000)	(777,456,000)

NOTE: IT IS STATED THAT TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE AND BELIEF, ALL MATERIAL RISK FACTORS HAVE BEEN DISCLOSED AND THAT NOTHING HAS BEEN CONCEALED IN THIS RESPECT.

6 LEGAL PROCEEDINGS:

6.1. OUTSTANDING LEGAL PROCEEDINGS OF THE COMPANY

There is no material litigation, other than in the ordinary course of business, that would have an adverse effect on the Company. Moreover, these litigation matters have already been disclosed in the audited financial statements. Nonetheless certain litigation matters have been detailed below.

Legal Order dated	Issuing Authority	Tax Period, if any	Order Amount/ Financial Impact (PKR Mn)	Current status	Management's Stance
August 18, 2020	Appellant Tribunal Inland Revenue	2013 to 2016	Cumulative demand amounting to Rs.55.423 million. Company deposited Rs.28 million under protest.	Pending	Management is confident that the matter will be decided in favour of the Company by the Appellate Authorities.
June 29, 2018	Appellant Tribunal Inland Revenue	2012	Rs.37.77 million	Pending	N/A
November 29, 2018	Appellant Tribunal Inland Revenue	2015	Rs.25.89 million	Pending	Management is confident that the matter will be decided in favour of the Company by the Appellate Authorities.
October 30, 2019	Appellant Tribunal Inland Revenue	2014 to 2015	Rs.1.828 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company. No provision has been made in the consolidated financial statements
April 04, 2017	Appellant Tribunal Inland Revenue	2013	Rs.1.178 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company. No provision has been made in the consolidated financial statements
June 30, 2016	Appellant Tribunal Inland Revenue	2014	Rs0.439 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the

					Company. No provision has been made in the consolidated financial statements
November 18, 2021	Appellant Tribunal Inland Revenue	2019	Rs.1.593 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company
September 27, 2023	Appellant Tribunal Inland Revenue	2018 to 2019	Rs. 0.252 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company.
N/A	Supreme Court of Pakistan	2018 2019 2020	2018: Rs.16.216 million 2019: Rs.20.373 million 2020: Rs.3.022 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company.
October 05, 2022	Commissioner Inland Revenue, (Appeal)	2017 to 2018	Rs. 12.3 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company.
May 13, 2023	Appellant Tribunal Inland Revenue	2016	Rs.45.6 million	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company.
November 14, 2022	Sindh High Court	2019	N/A	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company
December 15, 2022	Sindh High Court	2016	N/A	Pending	Management is confident that the case will be decided in favour of the Company






6.2. ACTION TAKEN BY THE SECURITIES EXCHANGE AGAINST THE ISSUER OR ASSOCIATED LISTED COMPANIES OF THE ISSUER DURING THE LAST THREE YEARS DUE TO NONCOMPLIANCE OF THE ITS REGULATIONS

None

6.3. ANY OUTSTANDING LEGAL PROCEEDING OTHER THAN THE NORMAL COURSE OF BUSINESS INVOLVING THE ISSUER, ITS SPONSORS, SUBSTANTIAL SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND ASSOCIATED COMPANIES, OVER WHICH THE ISSUER HAS CONTROL, THAT COULD HAVE MATERIAL IMPACT ON THE ISSUE

None

7 SIGNATORIES TO THE OFFER DOCUMENT

 ABDUL RAZAK DIWAN Chairman	 SHABBIR DIWAN Chief Executive Officer	 ZAKARIA BILWANI Non-Executive Director
 MUHAMMAD IQBAL BILWANI Non-Executive Director	 SAQIB HAROON BILWANI Non-Executive Director	 MUHAMMAD TAUFIQ BILWANI Executive Director
 MUHAMMAD ALTAF BILWANI Non-Executive Director	 TALAT IQBAL Independent Director	 MUHAMMAD TUFAIL IQBAL Independent Director
	 HUMA RAFIQUE Independent Director	

ANNEXURE A

**Extract of the Resolutions passed by the Board of Directors of
Gatron (Industries) Limited (the “Company”) at its meeting held on Thursday, December 14, 2023 at 14th
Floor, G&T Tower, # 18 Beaumont Road, Civil Lines-10, Karachi**

A meeting of the Board of Directors of the Company was held at 1:00 p.m. on Thursday, December 14, 2023 at 14th Floor, G&T Tower, # 18 Beaumont Road, Civil Lines-10, Karachi.

During the meeting, the Board of Directors of the Company discussed and approved the proposed issuance of further share capital by the Company by way of right issue. The Board of Directors of the Company stated that all requirements of the Companies Act, 2017 (the “**Companies Act**”) and the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 (the “**Regulations**”) have been considered by the Board of Directors of the Company and shall be duly complied with by the Company.

Accordingly, the following resolutions were passed by the Board of Directors:

“RESOLVED that the ordinary paid up share capital of the Company be increased from Rs. 767,289,600/- (Rupees Seven Hundred Sixty Seven Million Two Hundred Eighty Nine Thousand Six Hundred) to Rs. 1,087,289,600/- (Rupees One Billion Eighty Seven Million Two Hundred Eighty Nine Thousand Six Hundred) by issue of a further 32,000,000 (Thirty Two Million) ordinary shares of the Company, having face value of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, to be offered to the shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each shareholder (i.e. as right shares) in accordance with the provisions of Section 83 of the Companies Act and all applicable laws, at a price of Rs. 175/- (Rupees One Hundred Seventy Five) per share (i.e. inclusive of a premium of Rs. 165/- (Rupees One Hundred Sixty Five) per share), in the ratio of approximately 41.7052 right shares for every 100 ordinary shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each held immediately prior to the book closure date (i.e. 41.7052%), against payment to the Company of the price for the shares subscribed, which shares shall rank *pari passu* in all respects with the existing ordinary shares of the Company (the “**Right Issue**”).

FURTHER RESOLVED that the following are the quantum, size, price and purpose of the Right Issue, along with the utilization of proceeds, benefits of the same to the Company and its shareholders, the risk factors associated with the Right Issue, the justification for the issue of shares at a premium, and the minimum subscription amount, in accordance with Regulation 3(1)(iii) of the Regulations:

(a) Quantum of the Right Issue (i.e. as a percentage of existing paid-up capital):

The quantum of the Right Issue is approximately 41.7052% of the existing paid-up capital of the Company i.e. approximately 41.7052 right shares for every 100 ordinary shares held by the shareholders of the Company immediately prior to the close of the share transfer books of the Company.

(b) Right Issue Size:

The Company shall issue 32,000,000 (Thirty Two Million) ordinary shares, at a price of Rs. 175/- (Rupees One Hundred Seventy Five) per share, aggregating to Rs. 5,600,000,000/- (Rupees Five Billion Six Hundred Million).

- (c) **Right Issue Price:**
Rs. 175/- (Rupees One Hundred Seventy Five) per share (i.e. inclusive of a premium of Rs. 165/- (Rupees One Hundred Sixty Five) per share.
- (d) **Purpose of the Right Issue:**
The purpose of the Right Issue is to finance the Company's working capital requirements, which is essential for sustained business growth. This aligns with the Company's broader strategy to fortify its financial position in order to enhance profitability and, consequently, provide greater shareholders return.
- (e) **Utilization of Proceeds of the Right Issue:**
The proceeds from the Right Issue will be utilized to finance the Company's working capital requirements to ensure smooth operations and optimum sales levels, leading to sustained business growth.
- (f) **Benefits to the Company and Shareholders:**
In the country's current economic environment, where interest rates have increased significantly, funding the Company's working capital requirements largely through bank / financial institution debt is not a feasible or prudent option. Consequently, equity raised funds utilized for working capital purposes is a more prudent business and strategic approach, which will reduce finance costs. The same is expected to positively impact profitability, ultimately generating improved results for shareholders.
- (g) **Risk Factors associated with the Right Issue, if any:**
The Right Issue of the Company is being carried out at a price which is less than the current share price in the market and hence there is no major investment risk associated with the Right Issue. The substantial shareholders and directors of the Company have confirmed that they shall subscribe to (or arrange the subscription of) their respective right entitlements, while the balance portion of the Right Issue will be underwritten in accordance with the applicable laws. Normal risks associated with the business will remain; however, the Company believes that it is well placed in the market with a proven track record, which will help to mitigate such risk factors.
- (h) **Justification for Issue of Shares at Premium:**
The Right Issue is being carried out at a premium. Considering the current market price of the Company share, the premium charged over the par value is justified and is in line with market practice, in fact the same constitutes approximately 26.47% discount on the last 3 (three) months average trading share price.
- (i) **Minimum Subscription Amount**
None.

FURTHER RESOLVED that the letter of offer, as prescribed under Section 83(2) of the Companies Act, shall be issued / signed by any 2 (two) directors of the Company, in compliance with the applicable laws.

FURTHER RESOLVED that Mr. Shabbir Diwan – Chief Executive Officer and / or Mr. Muhammad Iqbal Bilwani - Director, be and are hereby severally authorized by all the directors of the Company, to sign the circular accompanying the letter of offer, once finalized in accordance with the procedure stipulated under the Regulations.

FURTHER RESOLVED that all fractional entitlements, if any, will be consolidated in the name of the Company Secretary (under trust), and unpaid letters of right in respect thereof shall be sold on the Pakistan Stock Exchange Limited (“PSX”), the net proceeds from which sale, once realized, shall be distributed / paid to the entitled shareholders in proportion to their respective entitlements as per the Regulations.

FURTHER RESOLVED that any unsubscribed shares may be offered and allotted (upon subscription) to such persons as the directors may deem fit in accordance with Section 83(1)(a)(iv) of the Companies Act, including the sponsors / substantial shareholders, directors or associated undertakings of the Company or any third party, before calling upon the underwriters to subscribe to any unsubscribed shares.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and / or Company Secretary and / or the Chief Financial Officer, be and are hereby severally authorized to prepare, revise and finalize the draft offer document / letter and share it with the Securities and Exchange Commission of Pakistan (“SECP”) and PSX, and revise the same based on the observations and changes of the SECP and PSX as may be deemed fit by them, in the manner prescribed under the Regulations, along with preparing and submitting other necessary documents in this respect. While the draft offer letter shall be placed on the PSX website, public comments on the same shall not be required to be solicited.

FURTHER RESOLVED that the Chief Executive and / or Company Secretary and / or the Chief Financial Officer, be and are hereby severally authorized, such that any one of them may do all or any of the following for and on behalf, and in the name, of the Company:

- (i) appoint / negotiate with consultants / advisors / auditors and underwriter(s) to the Right Issue, to finalize terms and conditions and sign underwriting agreements(s), other documents and settle / finalize fees, underwriting commission, take up commission and third party expenses and / or any other expenses relating to the Right Issue;
- (ii) to prepare the schedule for issue of right shares including date of payment, and to make any amendment in the said schedule, appointment of banker(s) to the issue, announce (and amend) book closure dates, and to take all necessary actions, in respect of the Right Issue and ancillary matters thereto, as required by the SECP, PSX, Central Depository Company of Pakistan Limited (“CDC”) (including, but not limited to, induction of the offer for right shares in the Central Depository System of the CDC) or any other authority / body;
- (iii) to decide and announce the closure of the share transfer books of the Company, including the dates thereof, to determine entitlements of the shareholders of the Company with respect to the Right Issue;
- (iv) to open, maintain, operate and close bank accounts for the purpose of amounts received from subscription of rights shares;
- (v) to credit right shares, once allotted by the Board of Directors, and file returns / documents as required by SECP / PSX / CDC along with the auditor's certificates; and

(vi) to take all other necessary steps, and do all other acts, deeds and things, to prepare / finalize the offer letter / document, circular and schedule for issue of right shares and any other documents and to make any amendment in the said documents and schedule and to take all necessary action as may be required in this regard including execution of any documents and agreements or any ancillary or incidental actions to give effect to the above resolutions.

Certified that the above mentioned is a true and valid extract from the meeting of the Board of Directors of Gatron (Industries) Limited held at 14th Floor, G&T Tower, #18 Beaumont Road, Civil Lines-10, Karachi on Thursday, December 14, 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Yasin Bilwani", with a horizontal line extending to the right.

Muhammad Yasin Bilwani
Company Secretary

December 14, 2023

Statement in Fulfilment of Requirements Contained Under Regulation 3(3)(vi) Of

The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020

In relation to Comments Received from
Securities & Exchange Commission of Pakistan
Vide its Letter Dated January 19, 2024
On the Draft Circular under Section 83(1) of the Companies Act, 2017
And the Changes made to the Circular Based on the Given Comments

Sr. No	Name of the Person	Comment Received	Whether the Company agree / disagree to the comment	Proposed change, if agreed	Rationale
1.		Cover Page			
i.	Securities & Exchange Commission of Pakistan	Date of final offer letter, book closure, subscription amount payment, and letter of rights to be added in the final document	Agreed	Added	Dates inserted
ii.		Insert the full link to download the offer letter	Agreed	Added	Full link to download the offer letter inserted
2.		Undertaking by the CEO and CFO			
		Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final document	Agreed	Inserted	Signed undertaking has been added
3.		Undertaking by the Board of Directors			
i.		Clause viii of undertaking of Schedule I shall be added in undertaking by the Board of Directors (Board) in final Offer Document (OD)	Agreed	Added	Refer to Clause vii of the undertaking by the Board of Directors
ii.		Clause viii of undertaking by the Board in offer document may be amended by deleting this line, "if the issuance proceeds exceed Rs.750 million or 50% of the paid-up capital of the listed company issuing right shares, whichever is higher"	Agreed	Line deleted	Refer to Clause ix of the undertaking by the Board of Directors
iii.		Undertaking shall be signed by the respective signatories in the final OD	Agreed	Inserted	Signed undertaking has been added

4.		Glossary of technical terms and definitions			
i.		Write 'Securities Exchange' with 'PSX	Agreed	Details added	See Glossary of Technical Terms
ii.		In the table "Regulations" shall be defined as "Companies (Further Issue of Shares Regulations), 2020	Agreed	Amended	Refer to Glossary of Technical Terms
5.		Salient Features of the Right Issue in draft Offering Document			
i.		<p>Section 1.1 (d) Basis of determination of price of the right issue:</p> <p>a. Last three months average share price from September 14, 2023 to December 13, 2023 (a day before announcement of BOD meeting) to be used instead of September 1, 2023 to November 30, 2023.</p> <p>b. In the footnote clearly disclose the calculation of discount percentage indicating the average market price of the last three months preceding the date of board resolution.</p>	Agreed	Changes made	<p>Three months average share price from September 14, 2023 to December 13, 2023 has been used</p> <p>Calculation of discount percentage mentioned in the footnote.</p>
ii.		Section 1.1 (g) Name of Directors attending the Board Meeting: Disclose that new BOD was constituted subsequent to the announcement of right issue and refer to the section where names of the new BOD are provided.	Agreed	Detail Added	Footnote added as per SECP comments
iii.		<p>Section 1.2 (B): Additional disclosure relating to purpose of the right issue</p> <p>a) Point 1 of the table: Separately disclose amount of proceeds required for each category of working capital.</p>	Agreed	Details Added	a) Amount of proceeds disclosed in tabular form

		<p>b) Point 2 of the table: Disclose the basis of estimate of Rs. 5.6 Billion working capital requirement, and estimated amount to be injected in each component of working capital in tabular form.</p> <p>c) Point 3 of the table:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disclose how the increase in capacity will be achieved. • Reconcile production capacity with the production capacity mentioned in point 1.3 			<p>b) Already covered in point 1 of Section 1.2 (B)(a)</p> <p>(c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reason of increase in capacity has been disclosed. • Production capacity has been reconciled as mentioned in point 1.3.
iv.		<p>Section 1.3: Financial effects arising from Right Issue</p> <p>a) Disclose calculation of the breakup value per share (pre and post issue), gearing ratio (pre and post issue) and source of market share percentage in the footnote for clarity.</p> <p>b) Disclose pre and post issue production capacity</p>	Agreed	Details Added	<p>a. Footnote added showing calculations and source of market share in the foot note.</p> <p>b. Regarding pre and post issue production capacity, it will remain same as the funds will be utilized for working capital requirements.</p>
v.		In table of section 1.4, underwriting commission should be disclosed in final OD	Agreed	Added	Underwriting commission percentage mentioned
vi.		In table of section 1.5, amount to be underwritten by each of the underwriters shall be disclosed in final OD.	Agreed	Added	Amount underwritten by each of the underwrites disclosed.
vii.		Table of section 1.6 shall be updated in the final OD in light of the undertaking by directors and substantial shareholders to subscribe their portion or arrange subscription of the same through other persons. Also disclose the	Agreed	Added	A clarificatory note has been added after the Table in Section 1.6 as the actual subscription and shareholding position is not finalized and cannot be

		names and shareholding (pre and post issue) of persons subscribing the shares instead of directors/substantial shareholders.			ascertained on the date hereof.
viii.		Table of section 1.8 shall be updated by disclosing the days and dates against each step in the final OD	Agreed	Added	Details have been added
6.		Subscription Amount Payment Procedure			
		Relevant dates shall be inserted in point (a), (e) and (f) and full link shall be disclosed for downloading Right Subscription Request at point (b).	Agreed	Added	Details have been added
7.		Profiles of the Board of Directors of the Company and Sponsors			
		Recheck the spelling of 'Gani & Tayub (Private) Limited' throughout the whole document as it is appearing as 'Ghani & Tayub (Private) Limited' in Form A submitted by the respective Company.	Agreed	Corrections made	Spelling corrected
8.		Financial Details of the Issuer			
		<p>i. In table of section 4.1, figure of accumulated profit for last three years shall be added.</p> <p>ii. In section 4.2, names of the companies for which consolidated financial statements are prepared shall be added.</p> <p>iii. In section 4.4, start date for calculation of average market price of the share of the issuer during the last six months shall be disclosed.</p>	Agreed	Relevant details added	<p>i. Unappropriated profit figures for last three years added.</p> <p>ii. Name of companies for which consolidated financial statements are prepared have been added.</p> <p>iii. Start date for calculation of average market price of the share during the last six months added.</p>

9.		Risk Factors i. In section 5.2, risk mitigants, if any to address the internal and external risks shall also be added. ii. In profitability risk, discrepancy with respect to the value of after-tax profit disclosed in the offer document vis-à-vis financial statements of FY 2023 shall be rectified. iii. In profitability risk, full form of the abbreviation 'PFY', i.e. Polyester Filament Yarn, shall be added. iv. In negative operating cash flow risk, reasons of increase in stocks and debtors should be disclosed.	Agreed	Relevant details added	i. Risk mitigants added. ii. After-tax profit number rectified. iii. Full form of the abbreviation added in the final OD iv. reasons of increase in stocks and debtors disclosed.
10.		Outstanding Legal Proceedings of the Company			
		In section 6.1, disclose the legal proceedings in prescribed format given in 12(iii) of the Schedule I of the Regulations	Agreed	Details added	Notwithstanding that all of the Company's legal proceedings are in the ordinary course of business and have already been disclosed in the audited accounts of the Company, details of certain legal proceedings have been added.

انویٹرز کے لیے مشورہ

ایکویٹی سیکورٹیز اور ایکویٹی سے متعلقہ سیکورٹیز میں سرمایہ کاری میں کسی حد تک منفی نتائج ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ کاروں کیلئے ضروری ہے کہ وہ رائٹس شیئر کی پیشکش کی دستاویز کو پڑھیں (یہاں 'آفرڈ اکومنٹ' کے طور پر حوالہ دیا گیا ہے) اور وہ مذکورہ آفرنگ میں سرمایہ کاری کا کوئی فیصلہ کرنے سے قبل منفی نتائج کے عوامل کو احتیاط سے پڑھیں، اپنی مالی حالتوں اور رسک لینے کی صلاحیت کا اندازہ لگائیں۔

رائٹ انٹرنیشنل لیٹر PSX میں قابل تجارت ہے، اس سے پیدا ہونے والے منفی نتائج اور فوائد صرف سرمایہ کاروں کی ذمہ داری ہوں گے۔ مذکورہ دستاویز کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو معلومات فراہم کرنے کے مقصد کے لیے اور گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کی جانب سے 32,000,000 نئے عمومی حصص پر مشتمل 5,600,000,000/- روپے کے استحقاق کے معاملے کے سلسلے میں عام طور پر عوام الناس کے لیے جاری کی گئی ہے۔ اس دستاویز کی ایک کاپی سیکورٹیز ایکسچینج کے ساتھ رجسٹر کی گئی ہے۔ یہ آفرڈ اکومنٹ 14 مئی 2024 تک کارآمد ہے۔



گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ

رائٹ شیئر آفرنگ دستاویز

قیام کی تاریخ اور مقام: 28 مئی 1980، پاکستان، انکارپوریشن نمبر: 0007766،

رجسٹرڈ آفس: کمرہ نمبر 32، پہلی منزل، احمد کپٹیکس، جناح روڈ، کونڈہ - بلوچستان۔

کارپوریٹ آفس: 11 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور، #18 بیومونٹ روڈ، سول لائنز - 10، کراچی - سندھ

رابطہ نمبر: +92-21-35659500، ویب سائٹ: www.gatron.com، رابطہ شخص: جناب شمیر ہارون، فون: +92 21 35659518، ای میل:

shameer@gatronova.com (کاروباری اوقات کے دوران رابطہ کرنے کیلئے، پیر تا جمعہ صبح 09:00 سے 05:15 بجے تک اور ہفتہ صبح 09:00 بجے تا دوپہر 2:00 بجے تک)

اجرا کا حجم: رائٹ ایشو 32,000,000، رائٹ شیئر (یعنی گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کے موجودہ ادا شدہ سرمائے کا 41.7052 فیصد) پر مشتمل ہے، ہر ایک کی فیس ویلیو 10 روپے ہے، ہر ایک

بجسب 175 روپے پیشکش کی قیمت (یعنی بشمول 165 روپے فی شیئر کا پریمیم) ہے۔ رائٹ ایشو کے ذریعے جمع کی جانے والی کل رقم 5,600,000,000 روپے ہے۔

عوامی تبصروں کے لیے آفرڈ اکومنٹ کو PSX کی ویب سائٹ پر رکھنے کی تاریخ: ناقابل اطلاق (عوامی تبصرے طلب نہیں کیے گئے)

فائل آفریٹرز کی تاریخ: 2 فروری 2024

کتاب کی بندش کی تاریخ: 8 فروری 2024 تا 12 فروری 2024

سیسکرپشن کی رقم کی ادائیگی کی تاریخیں: 16 فروری 2024 تا 15 مارچ 2024

لیٹر آف رائٹس کے تجارت کی تاریخیں: 16 فروری 2024 تا 8 مارچ 2024

متعلقہ رابطہ افراد کی تفصیلات:

ای میل آئی ڈی	آفس ایڈریس	رابطہ نمبر	عہدہ	شخص کا نام	
shameer@gatronova.com	11 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور، #18 ہیومنٹ روڈ، سول لائنز-10، کراچی	+92 21-35659518	ڈویژنل سربراہ (ٹیکس، قانونی اور کارپوریٹ امور)	جناب شمیر ہارون	جاری کنندہ کا مجاز افسر

انڈر رائٹرز

taha.siddiqui@arifhabibtd.com	عارف حبیب لمیٹڈ 2/F، عارف حبیب سینٹر M.T.، 23، خان روڈ، کراچی	+92 21 111245111	چیف فنانشل آفیسر	ٹحہ صدیقی صاحب	عارف حبیب لمیٹڈ
aziz@dawoodequities.com	17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور 'A'، ا.ا. چندریگر روڈ، کراچی	+92 21 32275200	چیف ایگزیکٹو آفیسر	جناب عبدالعزیز حبیب	داؤد ایکویٹی لمیٹڈ

جاری کنندہ کے بینکر

mairajhassan@habibmetro.com	ٹرانزیکشن بینکنگ، میزانین فلور، ا.ا. چندریگر روڈ، کراچی	+92 21 32644571	ٹیم لیڈر سبیز (جنوبی) ٹرانزیکشن بینکنگ	سید معراج حسن	حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ
ayub.baig@meezanbank.com	میزان ہاؤس، C-25، اسٹیٹ یونیو، سائٹ، کراچی	+92 21-3640097	سینئر نائب صدر کیپٹل مارکیٹس / ایس بی پی رپورٹنگ یونٹ	مرزا ایوب بیگ	میزان بینک لمیٹڈ

ویب سائٹ: مذکورہ آفر لیٹرز ذیل سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

<https://gatron.com/right-shares/>

<https://www.psx.com.pk>

چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف فنانشل آفیسر کی جانب سے انڈر ٹیکنگ

ہم، شمیر دیوان، چیف ایگزیکٹو آفیسر اور مصطفیٰ بلوانی، چیف فنانشل آفیسر آف گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ تصدیق کرتے ہیں کہ:

- (i) پیشکش کی دستاویز میں جاری کنندہ اور ایٹو کے حوالے سے تمام معلومات شامل ہیں، جو کہ ایٹو کے تناظر میں ضروری ہے اور اس سلسلے میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے؛
- (ii) پیشکش کی دستاویز میں موجود معلومات ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق حقیقی اور درست ہیں؛
- (iii) اس میں بیان کردہ آراء اور ارادے ایمانداری سے بیان کئے گئے ہیں؛
- (iv) کوئی اور حقائق نہیں ہیں، جو اس آفر ڈاکومنٹ کو مکمل یا اس کے کسی بھی حصے کے طور پر گمراہ کن بناتی ہے؛ اور
- (v) کمپنیز ایکٹ، 2017 کمپنیز (فردر ایٹو آف شیئرز) ریگولیشنز، 2020، سنٹرل ڈپازٹری کمپنی کی تمام ضروریات پوری کی گئی ہیں۔

منجانب گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ

Sd/-

Sd/-

مصطفیٰ بلوانی
چیف فنانشل آفیسر

شمیر دیوان
چیف ایگزیکٹو آفیسر

بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) کی جانب سے انڈر ٹیکنگ

ہم، بورڈ آف ڈائریکٹرز آف گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ بذریعہ ہذا تصدیق کرتے ہیں کہ:

- (i) تمام مواد کی معلومات جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت درکار ہے، سیکورٹیز ایکٹ، 2015 کمپنیز (فردر ایٹو آف شیئرز) ریگولیشنز، 2020، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی کمپنیوں اور سیکورٹیز کے ضوابط کی فہرست اس پیشکش کی دستاویز میں ظاہر کی گئی ہیں اور یہ کہ پیشکش کی دستاویز اور معاون دستاویزات میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق حقیقی اور درست ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں چھپایا گیا ہے۔
- (ii) ہم یہ تصدیق کرتے ہیں کہ تمام ٹھوس معلومات، بشمول وہ خطرات جو سرمایہ کار کو باخبر فیصلہ کرنے کے قابل بناتے ہیں، پیشکش کی دستاویز میں ظاہر کر دی گئی ہیں۔
- (iii) صحیح اجراء جاری کنندہ کے بورڈ کی صوابدید ہے اور اس کے لیے نہ تو کمیشن اور نہ ہی سیکورٹیز ایکسچینج کی منظوری کی ضرورت ہے۔
- (iv) ڈرافٹ پیشکش دستاویز سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور جاری کنندہ کی ویب سائٹ پر 29 دسمبر 2023 پر رکھی گئی تھی (یعنی بورڈ کی جانب سے اعلان کی تاریخ کے 45 دنوں کے اندر)۔
- (v) سیکورٹیز ایکسچینج اور SECP سے پھرے 19 جنوری 2024 کو موصول ہوئے۔
- (vi) بورڈ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ڈرافٹ آفر ڈاکومنٹ کو سیکورٹیز ایکسچینج اور SECP کے تبصروں کی روشنی میں اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔
- (vii) بورڈ نے PSX اور کمپنی کی ویب سائٹ پر واضح کر دیا کہ، موصول ہونے والے تمام تبصرے ان وضاحتوں کے ساتھ ہیں کہ انہیں کیسے ایڈریس کیا گیا ہے۔
- (viii) فائنل آفر ڈاکومنٹ بک بند ہونے کی تاریخوں اور متعلقہ حق جاری کرنے کی ٹائم لائنز کے ساتھ 2 فروری 2024 کو سیکورٹیز ایکسچینج کی ویب سائٹ پر رکھی گئی ہیں۔ (یعنی PSX اور SECP کے تبصروں کی وصولی کی تاریخ سے 20 کام کے دنوں کے اندر)۔
- (ix) اسٹیچوٹری آڈیٹر میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، پیش رفت کے استعمال کی نگرانی کرے گی۔

Sd/-

زکریا بلوانی	شبیر دیوان	عبدالرزاق دیوان
محمد توفیق بلوانی	ثاقب ہارون بلوانی	محمد اقبال بلوانی
محمد طفیل اقبال	طلعت اقبال	محمد الطاف بلوانی
	ہمارے رفیق	

i کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کمپنیز (فرد رائیٹ آف شیئرز) ریگولیشنز، 2020 کے مطابق، اس دستاویز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔

ii سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج اور SECP مندرجہ ذیل معاملات سے دستبردار ہیں:

a کسی بھی نقصان کے لیے کوئی بھی ذمہ داری، تاہم مذکورہ دستاویز سے پیدا ہونے والے یا اس پر انحصار کرتے ہوئے، اس دستاویز کی بنیاد پر کیے گئے فیصلوں اور/یا اقدامات کے لیے کسی بھی وجہ سے پیدا ہونا، بشمول، لیکن ان تک محدود نہیں، غلطیاں، نامکمل پن اور/یا غلطیاں۔

b کمپنی اور اس کی کسی بھی اسکیم/پروجیکٹ کی مالی استحکام کی کوئی ذمہ داری، جو ہذا میں بیان کی گئی ہے یا کسی بھی بیان کی درستگی کے لیے، اس پیشکش دستاویز میں کمپنی کی طرف سے ان کے حوالے سے کی گئی رائے یا اظہار خیال۔

c اجراء کے معیار کے حوالے سے کوئی ذمہ داری۔

iii یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس پیشکش کی دستاویز میں موجود معلومات کو SECP اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کی جانب سے کسی خاص معاملے پر مشورے کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے اور اسے مخصوص مشورے کے متبادل کے طور پر نہیں سمجھا جائے۔

کوئی بھی بینک جس کے ساتھ جاری کنندہ کی جانب سے جاری کردہ رقم رکھنے کے لیے اکاؤنٹ کھولا اور برقرار رکھا جاتا ہے۔
حبیب میٹروپولیٹن بینک لمیٹڈ اور میزان بینک لمیٹڈ کو، مذکورہ رائٹ ایشو میں، ایشو کے بینکرز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

بینکر ٹودی ایشو

سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ

CDC

سینٹرل ڈپازٹری سسٹم

CDS

گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ

کمپنی/گیٹرون/ جاری کنندہ

کمپنیز ایکٹ، 2017

کمپنیز ایکٹ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان

کمیشن/SECP

کمپنی کے عمومی حصص جن کی فیس ویلیو 10 روپے ہے۔

عمومی شیئرز

پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ

PSX/سیکیورٹیز ایکسچینج

پاکستانی روپے

PKR/پاکستانی روپے

کمپنیز (فرد ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز، 2020

ضوابط

32,000,000 رائٹ شیئرز جو کمپنی کے کل ادا شدہ سرمایہ بشرح 41.7052 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔

رائٹ ایشو/اجراء

کمپنی کی طرف سے اپنے اراکین کو حصص کے متعین تناسب میں پہلے سے ہی متعلقہ اقسام اور کلاسوں میں موجود پیش کردہ حصص۔

رائٹ شیئرز

معزز سندھ ہائی کورٹ کراچی

SHC

وہ شخص جس نے جاری کنندہ کمپنی میں ابتدائی سرمایہ دار ہو یا اسے جاری کنندہ کمپنی کے بورڈ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر ڈائریکٹرز کی اکثریت کی تقرری کرنے کا حق حاصل ہو؛
ایک شخص جو مندرجہ بالا میں ذکر کردہ شخص کی جگہ لے لیتا ہو؛ اور
ایک فرد یا افراد کا گروپ جو جاری کنندہ کمپنی کا کنٹرول رکھتا ہو چاہے وہ براہ راست یا بالواسطہ ہو۔

اسپانسرز

امریکی ڈالر

USD

8	1	رائٹ ایشو کی مختصر خصوصیات
8	1.1	رائٹ ایشو کی مختصر شرائط
9	1.2	ایشو اور فنڈنگ کے انتظامات کا بنیادی مقصد:
10	1.3	رائٹ ایشو سے پیدا ہونے والے مالی اثرات
10	1.4	ایشو کے کل اخراجات
10	1.5	انڈر رائٹرز کی تفصیلات
11	1.6	بنیادی شیئر ہولڈرز/ ڈائریکٹرز کی جانب سے معاہدات:
11	1.7	فریکشنل شیئرز
11	1.8	اہم تاریخیں
12	2	سبسکرپشن کی رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار
13	3	کمپنی اور سپانسرز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پروفائلز
13	3.1	کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پروفائل
15	3.2	دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرز کی ڈائریکٹرشپ
16	3.3	کمپنی کے اسپانسر کی پروفائل
18	4	جاری کنندہ کمپنی کی مالی تفصیلات
18	4.1	تین سالوں میں جاری کرنے والے کی مالیاتی جھلکیاں
18	4.2	مجموعی مالیاتی حسابات کے ایک سال قبل کی مالی جھلکیاں
19	4.3	گزشتہ پانچ سالوں میں سرمایہ کے اجراء کی تفصیلات
19	4.4	گزشتہ چھ مہینوں کے دوران جاری کنندہ کے حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت
19	4.5	شیئر سرمایہ اور متعلقہ معاملات
20	5	خطرات کے عوامل
20	5.1	رائٹ ایشو کے ساتھ وابستہ خطرہ
20	5.2	جاری کنندہ کے ساتھ وابستہ خطرہ
24	6	قانونی کارروائیاں
24	6.1	کمپنی کی بقایا قانونی کارروائیاں
25	6.2	گزشتہ تین سالوں کے دوران جاری کنندہ یا جاری کنندہ کی ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے خلاف سیکورٹیز ایکٹیویشن کی جانب سے قانونی ضابطوں کی عدم تعمیل کی وجہ سے کی گئی کارروائی۔
25	6.3	جاری کنندہ، اس کے اسپانسرز، بنیادی شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور اس سے ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں، جس پر جاری کنندہ کا کنٹرول ہو کیلئے عمومی کاروبار کے علاوہ کوئی بھی بقایا قانونی کارروائی، جس کا اس اجراء پر اثر پڑ سکتا ہے۔
25	7	اس اجراء کے دستخط کنندگان
26	8	ضمیمہ A
29	9	رائٹ آفر ڈاکومنٹ پر SECP کے تبصرے

(a)	اجراء کی تفصیل:	موجودہ شیئر ہولڈرز کو رائٹ شیئرز کا اجراء
(b)	مجوزہ اجراء کا حجم:	کمپنی 32,000,000 (تیس ملین) عمومی حصص بحساب -/175 روپے (ایک سو پچھتر پاکستانی روپے) فی حصص، مجموعی طور پر -/5,600,000,000 روپے (پانچ ارب چھ سو ملین پاکستانی روپے) جاری کرے گی۔
(c)	شیئر کی قیمت (فیس ویلیو):	-/10 روپے
(d)	رائٹ ایشو کی قیمت کے تعین کی بنیاد:	رائٹ ایشو پر بیمہ پر کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے حصص کی موجودہ مارکیٹ پرائس کو مد نظر رکھتے ہوئے، پارولیو پر چارج کیا جانے والا پر بیمہ درست ہے اور مارکیٹ پر کیٹس کے مطابق ہے، جو کہ درحقیقت انہی گزشتہ 3 (تین) مہینوں (بورڈ کے اجراء کو منظور کرنے کے فیصلے کی تاریخ سے) اوسط ٹریڈنگ حصص کی قیمت (1) پر تقریباً 24.49 فیصد رعایت کا حامل ہے۔
(e)	موجودہ حصص میں نئے اجراء کا تناسب جس پر کسی بھی شرط کا اطلاق ہوتا ہو:	ہر 100 موجودہ عمومی حصص کے لیے 41.7052 رائٹ شیئرز یعنی کمپنی کے موجودہ ادا شدہ سرمائے کا 41.7052 فیصد۔
(f)	بورڈ آف ڈائریکٹرز (BoD) کے اجلاس کی تاریخ جس میں رائٹ ایشو منظور کیا گیا:	جمعرات، 14 دسمبر 2023
(g)	بورڈ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کے نام:	1. جناب عبدالرزاق دیوان، چیئرمین 2. جناب شبیر دیوان، چیف ایگزیکٹو آفیسر 3. جناب زکریا بلوانی، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر 4. جناب عثمان حبیب بلوانی، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر 5. جناب محمد اقبال بلوانی، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر 6. جناب ثاقب ہارون بلوانی، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر 7. جناب محمد توفیق بلوانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر 8. جناب محمد وسیم، آزاد ڈائریکٹر 9. جناب طلعت اقبال، آزاد ڈائریکٹر
(h)	رائٹ ایشو کے اجراء سے موصول ہونے والی رقم کن امور میں استعمال ہوگی:	رائٹ ایشو سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کمپنی کے ورکنگ کپیٹل کی ضروریات کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ ہموار آپریشنز اور فروخت کی بہترین سطح کو یقینی بنایا جاسکے، جس سے کاروبار میں مسلسل ترقی ہوگی۔
(i)	رائٹ ایشو کا مقصد۔ موجودہ رائٹ ایشو کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے اہم اہداف کی تفصیلات:	رائٹ ایشو کا مقصد کمپنی کے ورکنگ کپیٹل کی ضروریات کو پورا کرنا، ہموار آپریشنز اور فروخت کی بہترین سطح کو یقینی بنانا ہے، جس سے کاروبار میں مسلسل ترقی ہوتی ہے۔ یہ کمپنی کی وسیع تر حکمت عملی سے مطابقت رکھتا ہے تاکہ منافع میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں، زیادہ سے زیادہ شیئر ہولڈرز کو آمدنی فراہم کی جاسکے۔
(j)	سیسکرپشن کی کم از کم سطح (MLS):	نہیں۔
(k)	"درخواست سپورٹڈ بذریعہ بلاک شدہ رقم" (ASBA) کی سہولت، اگر کوئی ہو تو، رائٹ شیئرز کی سیسکرپشن کیلئے فراہم کی جائے گی۔	نا قابل اطلاق۔

رائٹ ایٹو کے بنیادی مقصد کی تفصیلات		
رائٹ ایٹو کا مقصد کمپنی کی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جو کاروبار کی مستحکم ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کمپنی کی وسیع تر حکمت عملی سے مطابقت رکھتا ہے تاکہ منافع میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں، زیادہ سے زیادہ شیئر ہولڈر کو آمدنی فراہم کی جاسکے۔ ذیل میں رائٹ ایٹو کی آمدنی کے استعمال کا بریک اپ دیا گیا ہے:		
ایٹو کا مقصد	رقم (PKR)	رائٹ ایٹو کی کارروائی کا فیصد
ورکنگ کیپٹل	5,600,000,000/-	100%

B رائٹ ایٹو کے مقصد سے متعلق اضافی معلومات	
وہ سرگرمیاں جنہیں ورکنگ کیپٹل کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہیں۔	کمپنی کے کاروبار/ آپریشنز اور وقتاً فوقتاً ضروریات کی بنیاد پر درج ذیل وسیع سرگرمیاں ہیں جنہیں ورکنگ کیپٹل کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہیں۔

روپے 000 میں (تخمینہ)	
4,000,000	خام اور پیکنگ کے سامان کی خریداری بشمول انونٹری اور وینڈر/کسٹمرز ادا نیکیاں اور وصولیاں
1,600,000	مینیوفیکچرنگ اور ہیڈز

متعلقہ مفروضوں کے ساتھ ورکنگ کیپٹل کی ضرورت کے تخمینے کی بنیاد	کمپنی کی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کے تخمینے کی بنیاد درج ذیل ہیں: - کمپنی کے کاموں اور ضروریات کا تاریخی ڈیٹا - مہنگائی اور مارکیٹ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، لاگت کے مقابلے میں موجودہ مارکیٹ کی قیمتیں۔ - انونٹری کے دن: 97* - وصولیوں کے دن: 56* - ادا نیکیوں کے دن: 61* * مندرجہ بالا پچھلے تین سال کی کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات یعنی 2020-21 سے 2022-23 تک کی اوسط پر مبنی ہیں۔
--	---

اضافی ورکنگ کیپٹل بڑھانے کی وجوہات، متعلقہ حقائق اور اعداد و شمار کے ساتھ اس کی تصدیق	ورکنگ کیپٹل کمپنی کے کاروبار اور حجم کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کے لیے اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد بہترین آپریشنز اور سیلز لیولز کو حاصل کرنا ہے۔ کمپنی پہلے ہی گزشتہ 6 (چھ) سالوں میں دھاگے کی تیاری کی اپنی سالانہ صلاحیت (150 ڈیسنر پرنٹی) کو 38,800 میٹرک ٹن سے بڑھا کر 86,280 میٹرک ٹن کر چکی ہے اور آنے والے سال میں صلاحیت میں مزید توسیع متوقع ہے، جس سے اسے 106,000 میٹرک ٹن بنایا جائے گا، جس کی توسیع بنیادی طور پر طویل مدتی قرضوں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ کمپنی کی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات اس کے مطابق پلانٹ کی پیداواری صلاحیت کے مطابق بڑھی ہے۔ ملک کے موجودہ معاشی ماحول میں، جہاں شرح سود میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، کمپنی کی ورکنگ کیپٹل کی ضروریات کو زیادہ تر بینک/مالیاتی ادارے کے قرض کے ذریعے فنڈ دینا ایک قابل عمل یا دانشمند آپشن نہیں ہے۔ نتیجتاً، ورکنگ کیپٹل کے مقاصد کے لیے ایکویٹی فنڈز کا استعمال زیادہ سمجھدار کاروباری حکمت عملی ہے، جس سے مختصر مدت کے قرضے اور اس کے نتیجے میں مالیاتی لاگت میں کمی آئے گی۔
---	---

ٹیبلر شکل میں کل تصور شدہ ورکنگ کیپٹل کی ضرورت	کل تصور شدہ ورکنگ کیپٹل کی ضرورت
ضرورت، اس کی مارجن منی اور وہ حصہ جو کسی بھی بینک یا دوسری صورت میں فنانس کیا جائے گا۔	مارجن منی کسی بھی بینک (بینکوں) کے ذریعے یا کسی اور طرح سے مالی اعانت فراہم کرنے والا حصہ۔
پچھلے تین سالوں میں دنوں کی تعداد میں نقد تبدیلی کی صورتحال	
2022-23	2021-22
89	96
2020-21	91

تفصیل	پیمائش کی اکائی	پری ایٹو	پوسٹ ایٹو	(فیصد) میں اضافہ/ (کمی)*
مجاز سرمایہ	PKR	1,300,000,000	1,300,000,000	Nil
اداشدہ سرمایہ *	PKR	767,289,600	1,087,289,600	41.71%
حصص کی تعداد	یونٹ	76,728,960	108,728,960	41.71%
کل ایکویٹی	PKR	7,860,067,000	13,460,067,000	71.25%
خالص اثاثے/ بریک اپ ویلیوٹی شیئر *	PKR	102.44	123.80	20.85%
گیئرنگ تناسب **	فیصد	68%	56%	(12%)
پیداواری صلاحیت				
یارن (150 ڈیزرپٹی)	میٹرک ٹن	86,280	86,280	Nil
پریفارمز (27 گرام پٹی)	میٹرک ٹن	31,512	31,512	Nil
بٹائی	میٹرک ٹن	1,090	1,090	Nil
مارکیٹ شیئر ***	فیصد	27-30%	27-30%	Nil

نوٹ:

* یہ نمبر 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں سے لیے گئے ہیں۔ بریک اپ ویلیو کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے: کل ایکویٹی/حصص کی تعداد۔

** متوقع تخمینہ: خالص قرض (کل قرضے - نقد اور بینک بیلنس)/کل سرمایہ (خالص قرض + کل ایکویٹی)۔

*** متوقع تخمینہ (ملکی صنعت کا ڈیٹا سالانہ رپورٹوں سے لیا گیا ہے جبکہ درآمدی ڈیٹا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے)۔

1.4 ایٹو کے کل اخراجات

انڈر رائٹنگ کمیشن	0.25% (چوتھائی فیصد)
انڈر رائٹریٹ اپ کمیشن	2.00%
بینکرز ٹوڈی ایٹو- آؤٹ آف پاکٹ	100,000 روپے
CDC- تازہ ایٹو فیس	8,064,000 روپے
CDC- اہل سیکورٹی کے لیے سالانہ فیس (لسٹنگ فیس)	1,000,000 روپے
PSX فیس (اداشدہ سرمائے میں اضافہ کا 0.2% فیصد)	640,000 روپے
SECP سپروائزر فیس (PSX کو ادا کی گئی فیس کا 10% فیصد)	64,000 روپے
آڈیٹر سٹیٹیکسٹس کے لیے آڈیٹر فیس	200,000 روپے
اضافی حصص کے اجراء پر اسٹیٹسٹک ڈیوٹی	3,200,000 روپے تک
پرنٹنگ کے اخراجات	500,000 روپے تک
وکلاء اور مشاورت کی فیس	3,000,000 روپے تک

1.5 انڈر رائٹریٹ کی تفصیلات

انڈر رائٹریٹ کا نام	انڈر رائٹریٹ رقم	ایسوسی ایٹڈ کمپنی/ ایسوسی ایٹڈ جاری کنندہ کی انڈر رائٹریٹ
عارف حبیب لمیٹڈ	805,600,075/- روپے	نہیں
داؤد ایکویٹی لمیٹڈ	249,999,925- روپے	نہیں

1.6- بنیادی شیئر ہولڈرز/ ڈائریکٹرز کی جانب سے معاہدات:

شخص کا نام	حیثیت (سبسٹینشل شیئر ہولڈر/ ڈائریکٹر)	سبسکرائب کیے جانے والے حصص کی تعداد (3)	سبسکرائب کرنے کے لیے کمپنیز کے لیے	شیئر ہولڈنگ فیصد- جاری ہونے سے قبل	شیئر ہولڈنگ فیصد- جاری ہونے کے بعد (4)
جناب عبدالرزاق دیوان	ڈائریکٹر	480,390	4,803,900	0.63	0.44
جناب شبیر دیوان	ڈائریکٹر	5,476,774	54,767,740	7.14	5.04
زکریا بلوانی صاحب	ڈائریکٹر	480,390	4,803,900	0.63	0.44
جناب محمد اقبال بلوانی	ڈائریکٹر	4,197,152	41,971,520	5.47	3.86
جناب ثاقب ہارون بلوانی	ڈائریکٹر/ سبسٹینشل شیئر ہولڈر	8,187,852	81,878,520	10.67	7.53
جناب محمد توفیق بلوانی	ڈائریکٹر	3,016,600	30,166,000	3.93	2.77
جناب محمد الطاف بلوانی	ڈائریکٹر	1,119,194	11,191,940	1.46	1.03
جناب طلعت اقبال	ڈائریکٹر	75,682	756,820	0.10	0.07
جناب محمد طفیل اقبال	ڈائریکٹر	500	5,000	0.00	0.00
محترمہ ہمار فینق	ڈائریکٹر	1,000	10,000	0.00	0.00
جناب رضوان دیوان	سبسٹینشل شیئر ہولڈر	10,059,034	100,590,340	13.11	9.25

3 بیان افراد کے ذریعے سبسکرائب کیے جاسکتے ہیں جو مذکورہ ڈائریکٹرز کے ذریعے مقرر کئے گئے ہیں جیسا کہ ضوابط کے تحت اجازت دی گئی ہے۔

4 حق استحقاق کی اصل سبسکریپشن (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، افراد کی جانب سے مقرر کئے گئے افراد کی جانب سے سبسکرائب کیا جاسکتا ہے) اور/یا اضافی حصص کی سبسکریپشن سے مشروط۔

نوٹ: مذکورہ بالا ڈائریکٹرز/ بنیادی شیئر ہولڈرز فی الحال نووا فرنیچر زلمیٹڈ (گیٹرون کی ایک ایسوسی ایٹڈ کمپنی) کے ساتھ ان کے متعلقہ استحقاق (مکمل یا جزوی طور پر) کی سبسکریپشن حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں، جیسا کہ قابل اطلاق قوانین کے تحت اجازت ہے۔ فی الحال، نووا فرنیچر زلمیٹڈ کے پاس کمپنی میں کوئی شیئر ہولڈنگ نہیں ہے۔ جاری ہونے کے بعد، گیٹرون میں نووا فرنیچر زلمیٹڈ کی شیئر ہولڈنگ کا انحصار اس کے حصص کی سبسکریپشن بشمول ڈائریکٹرز/ کمپنی کے بنیادی شیئر ہولڈرز کے استحقاق پر ہوگا۔

1.7- فریکشنل شیئرز

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 14 دسمبر 2023 کو ہونے والی اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ تمام جزوی استحقاق، اگر کوئی ہیں، کو کمپنی سیکریٹری (انڈر سٹ) کے نام پر اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے سلسلے میں حق کے غیر ادا شدہ لیٹرز PSX میں فروخت کیے جائیں گے، فروخت کے بعد خالص آمدنی متعلقہ حقداروں کو تناسب میں، ریگولیشنز کے مطابق تقسیم/ ادائیگی کی جائے گی۔

1.8- اہم تاریخیں

گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ

حقوق کی کتاب کی بندش کے لیٹر کے اجراء کا عارضی شیڈول: 8 فروری 2024 سے 12 فروری 2024 تک (بشمول دونوں دن)

سیریل نمبر	طریقہ کار	دن	تاریخ
(a)	بک انٹری فارم میں CDC میں غیر ادا شدہ رائٹس کے کریڈٹ کی تاریخ	منگل	13 فروری 2024
(b)	فریکل شیئر ہولڈرز کو لیٹر آف رائٹ (LOR) کی ترسیل	جمعرات	15 فروری 2024
(c)	فریکل شیئر ہولڈرز کو لیٹر آف رائٹس (LOR) کے کریڈٹ کی/ ترسیل کی PSX کو اطلاع	جمعرات	15 فروری 2024
(d)	PSX پر غیر ادا شدہ رائٹس کی تجارت کا آغاز	جمعہ	16 فروری 2024

2024 فروری 28	بدھ	CDS میں اسپلٹنگ اور ڈپازٹ کی درخواست کی آخری تاریخ	(e)
2024 مارچ 8	جمعہ	لیٹر آف رائٹس کی ٹریڈنگ کی آخری تاریخ	(f)
2024 فروری 16	جمعہ	سیبسکرپشن کی رقم کی ادائیگی شروع ہونے کی تاریخ	(g)
2024 مارچ 15	جمعہ	ہیمنٹ قبول کرنے کی آخری تاریخ	(h)
2024 اپریل 4	جمعرات	حصص کی الاٹمنٹ اور CDS میں حصص کا کریڈٹ	(i)
2024 اپریل 15	پیر	فزیکل شیئرز سٹریٹجی کی ترسیل کی تاریخ	(j)

2 سیبسکرپشن کی رقم کی ادائیگی کا طریقہ کار

- (a) جیسا کہ مندرجہ بالا بتایا گیا ہے، مکمل اور دستخط شدہ رائٹ سیبسکرپشن کی درخواست کے ساتھ ادائیگی " گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ - رائٹ شیئرز سیبسکرپشن اکاؤنٹ " مذکورہ بالا بینک (بینکوں) کی کسی بھی مجاز برانچ کے ذریعے نقد یا کراس چیک یا ڈیپازٹ ڈرافٹ یا پے آرڈر کے ذریعے 15 مارچ 2024 کو یا اس سے قبل جمع کرائی جائے۔
- (b) رائٹ سیبسکرپشن کی درخواست کمپنی کی ویب سائٹ <https://gatron.com/right-shares> سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہے۔
- (c) غیر مقیم پاکستانی / غیر ملکی شیئر ہولڈر کی صورت میں، پاکستانی روپے کے مساوی رقم کا ڈیپازٹ ڈرافٹ بشمول مکمل اور دستخط شدہ رائٹ سیبسکرپشن کی درخواست (دونوں کاپیاں) ادائیگی کی آخری تاریخ سے قبل NICOP / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ کمپنی سیکریٹری، گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کو کمپنی کے رابطہ / خط و کتابت کے دفتر، مقام 11 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور نمبر 18، ہیومنٹ روڈ، سول لائنز - 10، کراچی - 75530، پاکستان میں بھیجا جائے۔
- (d) تمام چیک اور ڈرافٹس مذکورہ شہر میں واقع بینک کے نام پر تیار کیے جائیں جہاں سیبسکرپشن کی درخواست جمع کی گئی ہو۔ چیک / پے آرڈر / ڈرافٹ وصولی سے مشروط ہے۔
- (e) ایٹو کرنے والے بینکرز ڈاک کے ذریعے ڈیلیوری گئی رائٹ سیبسکرپشن کی درخواست کو 15 مارچ 2024 کو کاروباری دنوں کی بندش ہونے کے بعد موصول ہونے کی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک کہ اس بات کا ثبوت دستیاب نہ ہو کہ یہ ادائیگی کی آخری تاریخ سے قبل پوسٹ کی گئی ہیں۔
- (f) بینکرز کو 15 مارچ 2024 کو یا اس سے قبل موصول ہونے والی رقم کو رائٹ آفر کی قبولیت کے طور پر تصور کیا جائے گا۔
- (g) کمپنی کے بینکر (ز) کی جانب سے ایٹو کے لیے ادائیگی موصول ہونے کے بعد، ادائیگی کی آخری تاریخ سے 14 کاروباری دنوں کے اندر رائٹ سیکورٹیز متعلقہ CDS اکاؤنٹس میں جمع کر دی جائیں گی۔ ادا شدہ رائٹ سیبسکرپشن کی درخواست کی تجارت یا منتقلی نہیں کی جائے گی۔
- (h) IAS اکاؤنٹ ہولڈرز / سب اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے آن لائن ادائیگی کا اختیار:
- CDC نے رائٹ سیبسکرپشن کے لیے 1 لنک کے ذریعے آن لائن ادائیگی کی سہولت متعارف کرائی ہے۔ سرمایہ کار اکاؤنٹ ہولڈرز اب سیبسکرپشن کی درخواست (CDS) کے ذریعے تیار کردہ) کے اوپر دائیں جانب پرنٹ کردہ Bill 1 ادائیگی ID پر سیبسکرپشن کے لیے اپنے متعلقہ رائٹ کے لیے 1 Links ممبر بینکوں کے تمام دستیاب آن لائن بینکنگ چینلز (جیسے انٹرنیٹ بینکنگ، آٹومیٹڈ ٹیلر مشین (ATM) اور موبائل بینکنگ) کے ذریعے آن لائن ادائیگی کر سکتے ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز

تقریری کی تاریخ	عہدہ	نام
24-12-2023	چیئرمین	جناب عبدالرزاق دیوان
24-12-2023	چیف ایگزیکٹو آفیسر	جناب شبیر دیوان
24-12-2023	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	زکریا بلوانی صاحب
24-12-2023	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب محمد اقبال بلوانی
24-12-2023	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب ثاقب ہارون بلوانی
24-12-2023	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب محمد توفیق بلوانی
24-12-2023	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	جناب محمد الطاف بلوانی
24-12-2023	آزاد ڈائریکٹر	جناب طلعت اقبال
24-12-2023	آزاد ڈائریکٹر	جناب محمد طفیل اقبال
24-12-2023	آزاد ڈائریکٹر	محترمہ ہمارت فیق

3.1 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پروفائل

جناب عبدالرزاق دیوان - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 1980 سے

جناب عبدالرزاق دیوان بیچلر آف کامرس ہیں اور گیسٹون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کے بانی رکن ہیں۔ وہ کمپنی کے قیام کے بعد سے اس کے ڈائریکٹر فنانس بھی رہے ہیں۔ وہ گیسٹون کی جانب سے فلاحی مقاصد کے لیے بنائی گئی فاؤنڈیشن کے گورنر ہیں۔ جناب عبدالرزاق دیوان مین میڈیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ ہسپتال کے اعزازی چیئرمین تھے، جو ایک عطیہ کنندہ کی مالی اعانت سے چلنے والی ملٹی ڈسپلنری ہسپتال ہے جو معاشرے کی صحت اور تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔

جناب شبیر دیوان - ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 1983 سے

کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب شبیر دیوان نے جامعہ کراچی کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ پاکستان بزنس کونسل کے چیئرمین اور لوٹے کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وہ کراچی کے دوسرے بڑے سرکاری اسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے "مریضوں کی امداد فاؤنڈیشن" کے بورڈ آف گورنرز کے رکن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مین میڈیکل انسٹیٹیوٹ اینڈ ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے رکن بھی ہیں۔

جناب زکریا بلوانی - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 1984 سے

جناب زکریا بلوانی، ایک کامرس گریجویٹ ہیں، 1984 سے بورڈ آف گیسٹون میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کمپنی کے ساتھ ان کی مستقل وابستگی اور ان کا غیر ایگزیکٹو کردار کمپنی کی حکمت عملی اور رہبری میں ان کے مسلسل تعاون کو نمایاں کرتا ہے۔

جناب اقبال بلوانی - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 1982 سے

جناب اقبال بلوانی 1978 سے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے فیلو ممبر ہیں اور بورڈ آف گیسٹون میں اپنے کردار کے لیے مالیاتی مہارت کے حامل ہیں۔ اپنی ڈائریکٹری ذمہ داریوں کے علاوہ، جناب اقبال بلوانی کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے گیسٹون کی نگرانی اور نظم و نسق میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا وسیع تجربہ اور عمدگی سے وابستگی پاکستان میں پولیسٹر فیلامنٹ یارن کے سب سے بڑے پروڈیوسر کے طور پر اہم کردار ادا کر رہی ہے۔

جناب ثاقب ہارون بلوانی - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 2022 سے

جناب ثاقب ہارون بلوانی نے جامعہ کراچی کے انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ غنی اور طیب گروپ کا خاندانی فرد ہے۔ وہ مین ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو بورڈ کے ڈسٹی اور ممبر ہیں۔ جناب بلوانی نے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی ٹیکنیکل کمیٹی میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔

جناب محمد توفیق بلوانی - ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 2013 سے

جناب محمد توفیق بلوانی N.E.D یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے مکینیکل ڈسپلن کے گریجویٹ ہیں۔ وہ جولائی 2013 سے بورڈ آف گورنر میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور 1983 سے پلانٹ آپریشنز کے چیف آفیسر ہیں۔ انہوں نے 2013 میں انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی طرف سے پیش کردہ ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام کے تحت سرٹیفیکیشن حاصل کیا۔ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن، بسیلہ چیبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر اور انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کے رکن بھی رہے۔

جناب محمد الطاف بلوانی - نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر، 2023 سے

جناب محمد الطاف بلوانی حال ہی میں کمپنی کے ڈائریکٹر منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے 1995 میں USA سے مکینیکل انجینئرنگ میں پیچر کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد جناب الطاف بلوانی نے 1999 میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔

ٹیکنیکی اور کاروباری دونوں شعبوں پر محیط ایک مضبوط تعلیمی بنیاد کے ساتھ، جناب محمد الطاف بلوانی گورنر کی قیادت کی ٹیم کے لیے انجینئرنگ کی بصیرت اور کاروباری ذہانت کا ایک منفرد امتزاج مہیا کیا۔ ان کی مختلف مہارتوں کا مجموعہ کمپنی کی حکمت عملی کی سمت اور فیصلہ سازی کے عمل میں بہتر تعاون فراہم کرتا ہے۔

جناب طلعت اقبال - آزاد ڈائریکٹر، 2020 سے

جناب طلعت اقبال نے جامعہ کراچی سے بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ کامرس میں ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے جامعہ کراچی سے قانون میں ایل ایل بی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ ان کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی، کامرس اور تجارت کا وسیع تجربہ ہے۔ انہوں نے 2021 میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے پیش کردہ ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام کے تحت سرٹیفیکیشن حاصل کیا ہے۔

جناب محمد طفیل اقبال - آزاد ڈائریکٹر، 2023 سے

جناب محمد طفیل اقبال انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے ایسوسی ایٹ ممبر ہیں اور ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس کے چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں۔ وہ مالیاتی تجارت، کارپوریٹ فنانس اور ٹیکسیشن کے شعبے میں تیرہ سال سے زیادہ مہارت کے ساتھ ایک تجربہ کار فنانس اور ٹیکس پروفیشنل ہیں۔

محترمہ ہمارینق - آزاد ڈائریکٹر، 2020 سے

محترمہ ہمارے انسٹی ٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، کراچی سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے اور وہ نیٹ لائن (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایف ایم سی جی، کنسلٹنسی اور تعلیمی شعبے سے لے کر کارپوریٹ سیکٹر میں 12 سال سے زیادہ تجربہ کی حامل ہیں۔ وہ اس وقت بیت الاسلام مسجد اسکول، اسلام آباد میں نیچر ایڈمن اینڈ ہیومن ریسورسز کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہی ہیں اور اس کی مشاورتی کمیٹی کی رکن ہیں۔ وہ 2014 سے بیت الاسلام بلڈنگ، بیت الاسلام پبلی کیشنز کی ایڈیٹر رہی ہیں اور روتہ الاسلام اسکول میں انتظامی اور انسانی وسائل سے متعلق امور پر حکمت عملی کی مشیر بھی ہیں۔ انہوں نے مختلف ذاتی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سازی کی ورکشاپس میں شرکت کی، ان کا انعقاد کیا اور ان میں شرکت کی اور 2021 میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کی طرف سے پیش کردہ ڈائریکٹرز ٹریننگ پروگرام کے تحت سرٹیفیکیشن حاصل کیا۔

نمبر شمار	نام	عہدہ	دیگر کمپنیوں میں ڈائریکٹرشپ
01	جناب عبدالرزاق دیوان	چیرمین / ڈائریکٹر	گلوبل سٹھیکس لمیٹڈ گیٹرون فاؤنڈیشن (NPO) نووائٹیکس لمیٹڈ غنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ جی پیک کارپوریشن
02	جناب شبیر دیوان	چیف ایگزیکٹو آفیسر / ڈائریکٹر	گلوبل سٹھیکس لمیٹڈ گیٹرون پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ جی-پیک انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ گیٹرون فاؤنڈیشن (NPO) نووائٹیکس لمیٹڈ نووائفرٹیز لمیٹڈ نووائکٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ لوٹے کیمیکلز پاکستان لمیٹڈ
03	جناب زکریا بلوانی	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	گلوبل سٹھیکس لمیٹڈ
04	جناب محمد اقبال بلوانی	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	گلوبل سٹھیکس لمیٹڈ گیٹرون پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ گیٹرون فاؤنڈیشن (NPO) غنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووائٹیکس لمیٹڈ نووائٹیکس پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ این آر جی انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووائپاور جن لمیٹڈ

05	جناب ثاقب ہارون بلوانی	نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	گیٹر ون فاؤنڈیشن (NPO) گلوبل سٹریٹجی لینڈ نووا ٹیکس لمیٹڈ کرسٹو پاک انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووا پاور جن لمیٹڈ جی اینڈ ٹی ٹائررز (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووا موبیلٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووا کیئر (پرائیویٹ) لمیٹڈ مستقیم ڈائمنگ پرنٹنگ انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ PWR پاور (پرائیویٹ) لمیٹڈ گیٹلین انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ G&T گلوبل (پرائیویٹ) لمیٹڈ تھل نووا پاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ
06	جناب محمد توفیق بلوانی	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	گلوبل سٹریٹجی لینڈ جی۔ پیک انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ
07	جناب محمد الطاف بلوانی	ایگزیکٹو ڈائریکٹر	نووا ٹیکس لمیٹڈ این آر جی انرجی لمیٹڈ کرسٹو سافٹ (پرائیویٹ) لمیٹڈ G&T موٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ G&T موبیلٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ انوویٹ موبیلٹی (پرائیویٹ) لمیٹڈ نووا فرنیچر لمیٹڈ بوڈی گارمنٹس انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ
08	جناب طلعت اقبال	آزاد ڈائریکٹر	نہیں
09	جناب محمد طفیل اقبال	آزاد ڈائریکٹر	نہیں
10	محترمہ ہارون	آزاد ڈائریکٹر	ٹیٹ لائن (پرائیویٹ) لمیٹڈ

3.3 کمپنی کے اسپانسر کی پروفائل

جناب شبیر دیوان

جناب شبیر دیوان اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کمپنی میں 10.51 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔ جناب شبیر دیوان کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم اوپریٹیشن 3.1 (ڈائریکٹر کا پروفائل) دیکھیں۔

جناب محمد اقبال بلوانی

جناب اقبال بلوانی، اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کمپنی میں 9.97 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔ جناب اقبال بلوانی کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم اوپریٹیشن 3.1 (ڈائریکٹر کا پروفائل) دیکھیں۔

جناب ثاقب ہارون بلوانی کی کمپنی میں 10.67 فیصد شیئر ہولڈنگ ہے۔ مسٹر ثاقب بلوانی کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے براہ کرم اوپریٹیشن 3.1 (ڈائریکٹر کا پروفائل) دیکھیں۔

جناب رضوان دیوان

جناب رضوان دیوان اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کمپنی میں 13.74 فیصد شیئر ہولڈنگ رکھتے ہیں۔ جناب رضوان دیوان ایک 75 سالہ کاروباری گروپ غنی اینڈ ٹیب گروپ کے خاندانی رکن ہیں، جو پالیٹیکسٹریکٹائل، پی ای ٹی پیکیجنگ، کاٹن ٹیکسٹائل، ریٹیل، الیکٹریک موٹوری اور توانائی کے شعبوں میں مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ میں کام کرتے ہیں۔

وہ نوواٹیکس لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، جو رجن اورری سائیکل شدہ پی ای ٹی ریزین، پرفارمز، بوتلوں اور BOPET فلم کے کاروبار میں ہے۔ نوواٹیکس لمیٹڈ پاکستان کا سب سے بڑا نان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ خطے میں موثر اور چکدار پیکیجنگ کے شعبے میں بہت سے تجربات کی قیادت کی ہے۔

جناب دیوان 2018 سے اینگرو کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں اور ان کی سرمایہ کاری اور آڈٹ کمیٹیوں میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے 2022 میں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے بورڈ میں بھی شمولیت اختیار کی اور ان کی آڈٹ اور ہیومن ریسورس کمیٹیوں میں خدمات انجام دیں۔ وہ میمن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن ہیں، جو کراچی کے لوگوں کو تعلیمی اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے والی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے۔

جناب دیوان نے انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، کراچی میں انٹر پرائیور شپ کی تعلیم دی ہے جو ان کا الما میٹر ہے جہاں سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔

غنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ

غنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ پاکستان میں ایک معروف تجارتی درآمد کنندہ اور تجارتی ادارہ ہے جس کی کمپنی میں 4.22 فیصد شیئر ہولڈنگ ہے۔ 16 اپریل 1955 کو اس کے قیام کے بعد سے، یہ پلاسٹک مولڈنگ مرکبات میں تجارت کرتے ہوئے اپنی متنوع سپلائی چین کو تقویت دینے کے لیے نئی مصنوعات جیسے LLDPE، LDPE، P.P، HDPE، صنعتی کیمیکلز، اناج اور دالوں کا کاروبار کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔

غنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے نام اور شیئر ہولڈنگ کا فیصد:

نام	عہدہ	شیئر ہولڈنگ شرح فیصد
جناب پیر محمد دیوان	ڈائریکٹر	13.22
جناب عبدالرزاق دیوان	ڈائریکٹر	17.64
جناب محمد اقبال بلوانی	ڈائریکٹر / چیف ایگزیکٹو آفیسر	7.91
جناب محمد عارف بلوانی	ڈائریکٹر	0.29

(رقم روپے میں)

مالی سال 2020-2021	مالی سال 2021-2022	مالی سال 2022-2023	تفصیل
میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	قانونی آڈیٹر کا نام
16,557,561,000	23,959,654,000	27,383,780,000	مجموعی آمدنی/فروخت
1,866,775,000	3,176,386,000	1,453,630,000	کل منافع
1,316,094,000	2,646,192,000	553,468,000	سود اور ٹیکس سے پہلے منافع
1,301,765,000	2,559,215,000	551,276,000	منافع قبل از ٹیکس
1,065,724,000	1,827,244,000	205,300,000	خالص منافع
1,937,862,000	3,754,151,000	709,132,000	غیر مختص منافع
14,860,320,000	23,671,263,000	37,576,814,000	مجموعی اثاثے
8,905,168,000	15,899,822,000	29,716,747,000	کل واجبات
5,955,152,000	7,771,441,000	7,860,067,000	نیٹ ایکویٹی
155.23	202.57	102.44	شیرز کی بریک اپ ویلیو
27.78	23.81 (ری اسٹیٹ)	2.68	فی شیر آمدنی
NIL	NIL	115,093,000	ڈیویڈنڈ کا اعلان
NIL	NIL	383,645,000	بونس الیشو

4.2 مجموعی مالی حسابات کے ایک سال سے پہلے کے مالیاتی جھلکیاں

مالی سال 2020-2021	مالی سال 2021-2022	مالی سال 2022-2023	تفصیل
میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	میسرز کرسٹن حیدر بھیم جی اینڈ کمپنی	قانونی آڈیٹر کا نام
1. گینٹ و ماور (پرائیویٹ) لمیٹڈ	2. گلوبل سٹیٹھکس لمیٹڈ	3. جی-پیک انرجی (پرائیویٹ) لمیٹڈ	کمپنیوں کے نام جن کے لیے مالیاتی حسابات تیار کیے جاتے ہیں
27,383,780,000	2,000,266,000	1,306,163,000	مجموعی آمدنی/فروخت
96,508,000	(249,468,000)	2,179,798,000	کل منافع
31,086,378,000	9,615,733,000	40,702,111,000	سود اور ٹیکس سے پہلے منافع
125.32	(3.25)	383,645,000	منافع قبل از ٹیکس
			خالص خسارہ
			مجموعی منافع
			مجموعی اثاثے
			کل واجبات
			نیٹ ایکویٹی
			شیرز کی بریک اپ ویلیو
			فی شیر (خسارہ)
			ڈیویڈنڈ کا اعلان
			بونس الیشو

4.3 پچھلے پانچ سالوں میں کمپنیل کے اجراء کی تفصیلات

FY 2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	
کوئی نہیں	رائٹ ایشو				
کوئی نہیں	کوئی نہیں	کوئی نہیں	کوئی نہیں	100 فیصد 38,364,480 شیئرز جاری ہوئے۔	بونس ایشو

4.4 پچھلے چھ مہینوں میں شیئر کی اوسط مارکیٹ قیمت

گزشتہ چھ ماہ کے دوران کمپنی کے شیئر کی اوسط قیمت (12 جون 2023 سے 13 دسمبر 2023 تک) 230.61 روپے فی شیئر رہی۔

4.5 شیئر کمپنیل اور متعلقہ معاملات

جاری کنندہ کے شیئر ہولڈنگ کا پیٹرن

فیصد	حامل حصص	شیئر ہولڈرز
		ڈائریکٹرز، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کی شریک حیات اور نابالغ بچے
0.63	480,390	جناب عبدالرزاق دیوان
7.14	5,476,774	جناب شبیر دیوان
0.63	480,390	جناب زکریا بلوانی صاحب
5.47	4,197,152	جناب محمد اقبال بلوانی
10.67	8,187,852	جناب ثاقب ہارون بلوانی
3.93	3,016,600	جناب محمد توفیق بلوانی
1.46	1,119,194	جناب محمد الطاف بلوانی
0.10	75,682	جناب طلعت اقبال
0.00	500	جناب محمد طفیل اقبال
0.00	1,000	محترمہ ہمار فیتق
		ایسوسی ایٹڈ کمپنیاں، ادارے اور متعلقہ فریق
4.22	3,240,774	غنی اینڈ ٹیپ (پرائیویٹ) لمیٹڈ
0.00	1,200	ICP اور NIT
0.01	6,660	بینک، ترقیاتی مالیاتی ادارے، غیر بینکنگ مالیاتی ادارے
0.00	400	بیمہ کمپنیاں
13.11	10,059,034	10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈرز کے حامل
36.28	27,838,106	عام عوام (مقامی اور غیر ملکی)
16.35	12,542,880	غیر ملکی کمپنیاں
0.01	4,372	دیگر (ٹرسٹ اینڈ فنڈز اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں)
100%	76,728,960	کل

جاری کنندہ (موجودہ اور پوسٹ رائٹ ایشیوں) کے ڈائریکٹرز، اسپانسرز اور کافی شیئر ہولڈرز کے پاس حصص

فیصد	پوسٹ رائٹ شیئر ہولڈنگ (5)	فیصد	موجودہ شیئر ہولڈنگ	شیئر ہولڈرز کے نام
				ڈائریکٹرز
0.44	480,390	0.63	480,390	جناب عبدالرزاق دیوان
5.04	5,476,774	7.14	5,476,774	جناب شبیر دیوان
0.44	480,390	0.63	480,390	جناب زکریا بلوانی
3.86	4,197,152	5.47	4,197,152	جناب محمد اقبال بلوانی
7.53	8,187,852	10.67	8,187,852	جناب ثاقب ہارون بلوانی
2.77	3,016,600	3.93	3,016,600	جناب محمد توفیق بلوانی
1.03	1,119,194	1.46	1,119,194	جناب محمد الطاف بلوانی
0.07	75,682	0.10	75,682	جناب طلعت اقبال
0.00	500	0.00	500	جناب محمد طفیل اقبال
0.00	1,000	0.00	1,000	محترمہ ہمارتق
				سپانسرز/ بنیادی شیئر ہولڈرز
9.25	10,059,034	13.11	10,059,034	جناب رضوان دیوان

(5) رائٹ ایشیوں کے دوران سبسکرائب کیے گئے شیئرز کی اصل تعداد سے مشروط ہے (نوٹ کریں کہ ڈائریکٹرز اور سبسکرائبز دوسروں کو ان کے حقداروں کو سبسکرائب کرنے کا بندوبست کر سکتے ہیں؛ مزید یہ کہ ایسے افراد بورڈ کی جانب سے پیش کردہ اضافی شیئرز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں)۔

5 خطرات کے عوامل

5.1 رائٹ ایشیوں سے وابستہ خطرات

1. اندرونی خطرے کے عوامل

آپریشنل رسک

آپریشنل رسک ان غیر یقینی صورتحال کے منفی اثرات کا خلاصہ کرتا ہے جس کا سامنا کسی کاروبار کو ہوتا ہے جب وہ اپنی یومیہ کاروباری سرگرمیاں خاص طور پر پلانٹ کے آپریشن کے سلسلے میں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اندرونی طریقہ کار میں بریک ڈاؤن، عملے اور نظاموں میں خرابی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔

ہنرمند عملے کا زیادہ ٹرن اوور کا تناسب، کمپنی کی سپلائی چین میں خلل یا نامناسب منصوبہ بندی کمپنی کے لیے آپریشنل خطرے کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ کمپنی اضافی ٹرن اوور سے نمٹنے کے لیے وراثت کو برقرار رکھنے کے اقدامات، بشمول تربیت اور مسابقتی فوائد کو نافذ کر کے آپریشنل خطرے کو کم کر رہی ہے۔ مزید برآں، کمپنی ایک متنوع سپلائی چین کی منصوبہ بندی کے عمل کو اپنا رہی ہے اور سپلائی چین میں رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط حکمت عملیوں کو نافذ کر رہی ہے۔

حصولی کا خطرہ

یارن کی پیداوار کی صنعت میں ایک نمایاں کھلاڑی کے طور پر، کاروبار سے وابستہ خریداری کے موروثی خطرات سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یارن کی پیداوار کا شعبہ خاص طور پر خام مال کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ مزید برآں، کرنسی کی شرح تبادلہ میں اتار چڑھاؤ خام مال کی قیمت کو متاثر کر سکتا ہے۔ شفافیت کے لیے ہماری وابستگی میں ان خطرات کو تسلیم کرنا اور ان میں تخفیف کرنا فعال پروکیورمنٹ حکمت عملی، سپلائر تنوع اور ڈائنامک مارکیٹ کی مستعد نگرانی شامل ہے۔

قرض کا خطرہ

کریڈٹ رسک اس خطرے کی نمائندگی کرتا ہے جو مالیاتی انسٹرومنٹ کا ایک فریق کا دوسرے فریق کو مالی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکامی سے پیدا کرے گا۔ کمپنی انفرادی صارفین کے سلسلے میں کریڈٹ کی حدیں مقرر کر کے اور فروخت کی پیشگی رقم حاصل کر کے اور جہاں ضروری سمجھا جائے، ضمانت حاصل کر کے کریڈٹ رسک کو کنٹرول کرتی ہے۔ کمپنی نے مشتبہ تجارتی قرضوں کے لیے ایک الاؤنس قائم کیا ہے جو تجارتی قرضوں کے سلسلے میں ہونے والے نقصانات کے تخمینہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ نتیجتاً، کمپنی کا خیال ہے کہ اسے کریڈٹ رسک کے کسی بڑے ارتکاز کا سامنا نہیں ہے۔

لیکویڈیٹی رسک

لیکویڈیٹی رسک وہ ہے جہاں کسی ادارے کو مالی ذمہ داریوں سے وابستہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کافی نقدی کو برقرار رکھ کر اور مناسب کریڈٹ سہولیات کے ذریعے فنڈ کی دستیابی کو یقینی بنا کر لیکویڈیٹی رسک کو کنٹرول کرتی ہے۔ 30 جون 2023 تک کمپنی کے پاس 335 ملین روپے کے بینکوں میں بیلنس کے علاوہ 2,106 ملین روپے کی قرض لینے کی سہولتیں موجود ہیں۔ مندرجہ بالا کی بنیاد پر، انتظامیہ کا خیال ہے کہ لیکویڈیٹی کا خطرہ غیر معمولی ہے۔

SECP اور PSX کے ضوابط کی عدم تعمیل کا خطرہ

SECP یا PSX کی کسی بھی ریگولیٹری تقاضوں کی عدم تعمیل کی صورت میں، کمپنی کو PSX کے ڈیفالٹ طبقہ پر رکھا جاسکتا ہے جو ممکنہ طور پر کمپنی کے حصص کی تجارت میں رکاوٹ بن سکتا ہے اور اس کے حصص کی تجارت یا ڈی لسٹنگ میں ممکنہ معطلی کا باعث بن سکتا ہے۔

ایس ای سی پی اور پی ایس ایکس کے ضوابط کی عدم تعمیل کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، کمپنی نے ایک اندرونی تعمیل کا فریم ورک قائم کیا ہے، جاری رہنمائی کے لیے قانونی صلاح کار کو شامل کیا ہے، ریگولیٹری تبدیلیوں کی مسلسل نگرانی اور ریگولیٹری اداروں کے ساتھ کھلے رابطے کو برقرار رکھا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد اجتماعی طور پر ریگولیٹری تقاضوں کی پابندی کو یقینی بنانا ہے۔

2. بیرونی خطرات کے عوامل

بزنس رسک

کاروباری خطرہ مندرجہ ذیل عوامل کی وجہ سے کمپنی کے متوقع منافع یا نقصان سے کم رپورٹ کرنے کا امکان ہے:

- خام مال جیسے ان پٹ اخراجات میں اضافہ
- کنورژن کا سٹ اور یوٹیلٹی کے اخراجات میں اضافہ
- غیر ملکی سپلائرز سے یارن کی پاکستانی مارکیٹ میں ڈمپنگ
- یارن پر ریگولیٹری ڈیوٹی کا خاتمہ
- صارفین کی مانگ میں کمی
- آپریشن کی شرح میں کمی

کمپنی کاروباری خطرات کو کم کرنے کے لیے فعال طور پر حکمت عملیوں پر عمل پیرا ہے، بشمول سپلائر تنوع، تجزیات کے ذریعے لاگت کی پیش گوئی، اور مضبوط حکومتی تعلقات کو برقرار رکھنا۔

سود کی شرح کا خطرہ

شرح سود کا خطرہ وہ خطرہ ہے جو مارکیٹ کی شرح سود میں تبدیلی کی وجہ سے مالیاتی دستاویزات کی قدر میں اتار چڑھاؤ آئے گی۔ کمپنی کے پاس متغیر شرح سود پر قلیل مدتی قرضے ہیں، جو کمپنی کو شرح سود کے خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے، قرض لینے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس سے کمپنی کے لیے اپنے کاموں کی مالی اعانت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ کاروباری اخراجات میں کمی، کم اقتصادی ترقی، اور کم منافع کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ کاروباری سرمایہ کاری کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے کیونکہ نئے منصوبوں کی مالیاتی لاگت مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔

کمپنی مسلسل مارکیٹ کی شرح سود کی نگرانی کرتی ہے اور متغیر شرحوں پر قلیل مدتی قرضوں سے وابستہ شرح سود کے خطرے کو کم کرنے کے لیے حکمت عملیوں کو استعمال کرتی ہے۔ اسی کی روشنی میں، کمپنی رائٹ ایشو سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات، بشمول مختصر مدت کے قرضوں پر انحصار کم کرنے کے ارادے سے پورا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد سرمایہ کاری مؤثر فنانشنگ کو یقینی بنانا اور اعلیٰ سود کی شرحوں کے دوران کاروباری اخراجات پر اثر کو کم کرنا ہے۔

زرمبادلہ کا خطرہ

غیر ملکی زرمبادلہ کا خطرہ اس خطرے کی نمائندگی کرتا ہے کہ غیر ملکی زرمبادلہ کی شرحوں میں تبدیلی کی وجہ سے کسی مالیاتی دستاویزات کا مستقبل میں کیش فلو کی منصفانہ قیمت میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ غیر ملکی کرنسی کے خطرات بنیادی طور پر مستقبل کے معاشی لین دین یا قابل وصول ادا کیوں سے پیدا ہوتے ہیں جو غیر ملکی کرنسیوں میں لین دین کی وجہ سے موجود ہیں۔ کمپنی بنیادی طور پر USD، Euro، CHF اور JPY کے حوالے سے کرنسی کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے غیر ملکی زرمبادلہ کے خطرے سے دوچار ہے۔ تاہم، کمپنی مارکیٹوں کی سرگرمی سے نگرانی کرتی ہے اور مستقبل میں نقدی کے بہاؤ پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کے لیے معاشی استحکام کے طریقہ کار کے دستاویز کا استعمال کرتی ہے، تاکہ شرح مبادلہ میں اتار چڑھاؤ کے باوجود مالی استحکام کو برقرار رکھا جاسکے۔

معاشی سست روی

سست روی اور/یا میکرو اکنامک حالات کی خرابی ڈسپوز ایبل آمدنی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، جو صارفین کو اپنی خریداری ملتوی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ کسی بھی شعبے کی ترقی ملک میں موجودہ معاشی حالات سے متاثر ہوتی ہے۔ معاشی سست روی مجموعی طور پر سینٹھیک اور ریونیون سیکٹر کی ترقی اور کارکردگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ بڑھتی ہوئی لاگت اور انفراسٹرکچر کی وجہ سے مروجہ معاشی منظر نامہ تشبیہ کی جانب ہے۔ تاہم، اقتصادی سست روی کے ممکنہ اثرات کو کم کرنے کے لیے، کمپنی نے مشکل معاشی حالات کے دوران مالیاتی نمو کو برقرار رکھنے کے لیے لاگت پر قابو پانے کے اقدامات اور آپریشنل افادیت کو نافذ کیا ہے۔

عالمی اقتصادی اور مالیاتی مارکیٹ کا خطرہ

اجناس کی بلند قیمتوں کے باعث جاری جغرافیائی سیاسی خلل کی وجہ سے، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک سمیت دنیا کی تمام بڑی معیشتوں کو انفراسٹرکچر کے دباؤ کا سامنا ہے۔ کچھ بڑے عالمی مالیاتی ادارے بڑے ممالک میں کساد بازاری کے آثار دیکھ رہے ہیں جو بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہذا اثر پاکستانی معیشت اور مالیاتی منڈیوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے جس سے حکومت کی بین الاقوامی منڈیوں سے نئے قرضے حاصل کرنے کی محدود صلاحیت کے ساتھ ملک کی مجموعی میکرو حالت پر اثر پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی روپے/ امریکی ڈالر کی برابری متاثر ہو سکتی ہے۔ عالمی اقتصادی اور مالیاتی منڈی کے خطرات کو کم کرنے کے لیے، کمپنی جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال اور اقتصادی اتار چڑھاؤ کے پیش نظر مجموعی مالی چیک کو بڑھانے کے لیے تمام خطوں میں اپنی آمدنی کے سلسلے کو متنوع بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔

ریگولیٹری رسک

ریگولیٹری رسک کا تعلق حکومت کی پالیسیوں اور ضوابط میں مستقبل کی تبدیلیوں کے امکان سے ہے جو ممکنہ طور پر کمپنی کے مختلف کاروباری حصوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ریگولیٹری لینڈ سکیپ میں تبدیلیاں، جیسے کہ درآمدی ٹیرف میں تبدیلی جو صنعت کی مجموعی کارکردگی کو خاص طور پر متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مزید برآں، خام مال یا تیار مصنوعات کی درآمد سے متعلق ریگولیٹری ڈیوٹی یا ٹیکسوں میں کوئی بھی تبدیلی کمپنی کے منافع اور آپریشنل کارکردگی کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔

متبادل کا خطرہ

یاریں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ممکنہ متبادل خطرات کا سامنا ہے جو روایتی یاریں مصنوعات کی مانگ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چینی پولیسٹر فلیمینٹ یاریں (PFY) کی آمد اور متبادل ٹیکسٹائل مواد جیسے مسائل چیلنجز کا باعث ہیں۔ قیمت کی حساسیت، عالمی مقابلہ، اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں پیشرفت بھی متبادل خطرات کی پیچیدگی میں معاون ہے۔ ہماری کمپنی مطابقت پذیر رہتی ہے، تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کرتی ہے جس میں استعمال شدہ PET بوتلوں کو یاریں میں ری سائیکل کرنے کے لیے پلانٹ اور مشینری میں سرمایہ کاری شامل ہے، اور مارکیٹ میں مسابقتی پوزیشن کو برقرار رکھنے کو یقینی بناتے ہوئے ان چیلنجز کو مؤثر طریقے سے نیوگیٹ کرنے کے لیے پائیدار طریقوں پر غور کرتی ہے۔

3. اضافی خطرے کے عوامل

کیپٹل رسک مینجمنٹ

سرمائے کے انتظام میں کمپنی کا مقصد کمپنی کو گونگ کنسرن کے طور پر جاری رکھنے کی کمپنی کی صلاحیت کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ سرمایہ کی لاگت کو کم کرنے کے لیے ایک بہترین سرمائے کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے دوسرے اسٹیک ہولڈرز کو منافع اور فوائد فراہم کرنا جاری رکھ سکے۔ کمپنی اپنے کاموں کو ایکویٹی، قرضے اور ورکنگ کیپٹل کے انتظام کے ذریعے مالی اعانت فراہم کرتی ہے تاکہ فنڈس کے مختلف ذرائع کے درمیان ایک مناسب توازن برقرار رکھا جاسکے تاکہ خطرے اور لاگت کو کم کیا جاسکے۔ کمپنی کسی بیرونی طور پر عائد سرمائے کی ضرورت سے دوچار نہیں ہے۔

منافع بخش

مالی سال 2023 میں کمپنی کا بعد از ٹیکس منافع مالی سال 2022 میں 1.827 بلین روپے کے مقابلے میں 205 ملین روپے رہا۔ یہ کمی بنیادی طور پر ایک شدید سیاسی معاشی بحران، کم ہوتے زرمبادلہ کے ذخائر اور ایل سی کھولنے کے چیلنجز کے درمیان پولیسٹر فلیمینٹ یاریں کی مسلسل پھینکی جانے والی درآمدات کی وجہ سے ہوئی۔ مزید برآں، ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 22 فیصد کی تاریخی بلندی تک اضافے سے مالیاتی چارجز میں اضافہ ہوا، جس سے آپریٹنگ منافع کے بعد باٹم لائن متاثر ہوئی۔

منفی آپریٹنگ کیش فلو

کمپنی کا گزشتہ تین پچھلے مالی سالوں میں منفی آپریٹنگ کیش فلو رہا، جس کی بنیادی وجہ مصنوعات اور فروخت کی قدر میں اضافے کے مقابلے میں اسٹاک اور قرض دہندگان کی پوزیشن میں اضافہ ہے:

2020-21	2021-22	2022-23	
1,301,765,000	2,559,215,000	551,276,000	انکم ٹیکس سے قبل منافع / (نقصان)
617,517,000	701,402,000	1,045,116,000	نان کیش آئٹمز
(2,246,032,000)	(3,122,800,000)	(891,029,000)	ورکنگ کیپٹل تبدیلیاں
(450,706,000)	(542,752,000)	(839,797,000)	دیگر (ادائیگی) / ریسپنڈس
(777,456,000)	(404,935,000)	(134,434,000)	آپریٹنگ سرگرمیوں سے / (کا) کیش فلو

نوٹ:

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے بہترین علم اور یقین کے مطابق، تمام ٹھوس خطرات کے عوامل کو ظاہر کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کچھ بھی چھپایا نہیں گیا ہے۔

6.1 - کمپنی کی بقایا قانونی کارروائیاں

کاروبار کے عمومی طریقہ کار کے علاوہ کوئی ٹھوس قانونی چارہ جوئی نہیں کی گئی ہے، جس کا کمپنی پر برا اثر پڑے۔ مزید یہ کہ قانونی چارہ جوئی کے ان معاملات کو آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں میں پہلے ہی ظاہر کیا جا چکا ہے۔ بہر حال کچھ قانونی چارہ جوئی کے معاملات ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

قانونی حکم تاریخ	مجوزہ آجر	ٹیکس کی مدت، اگر کوئی ہو	آرڈر کی رقم / مالیاتی اثر (ملین میں روپے)	موجودہ صورت حال	انتظامیہ کا موقف
18 اگست 2020	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2013 سے 2016 تک	مجموعی طلب 55.423 ملین روپے ہے۔ کمپنی نے احتجاجاً 28 ملین روپے جمع کرائے۔	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ اپیل اتھارٹیز کے ذریعے کمپنی کے حق میں اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
29 جون 2018	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2012	37.77 ملین روپے	زیر التواء	نا قابل اطلاق
29 نومبر 2018	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2015	25.89 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ اپیل اتھارٹیز کے ذریعے کمپنی کے حق میں اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔
30 اکتوبر 2019	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2014 سے 2015 تک	1.828 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔ مجموعی مالیاتی بیانات میں کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔
04 اپریل 2017	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2013	1.178 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔ مجموعی مالیاتی بیانات میں کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔
30 جون 2016	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2014	0.439 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔ مجموعی مالیاتی بیانات میں کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہے۔
18 نومبر، 2021	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2019	1.593 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
27 ستمبر 2023	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2018 سے 2019	0.252 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
نا قابل اطلاق	سپریم کورٹ آف پاکستان	2018 2019 2020	16.216:2018 20.373:2019 3.022:2020 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
05 اکتوبر 2022	کمیشنر ان لینڈریونیو، (اپیل)	2017 سے 2018	12.23 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
13 مئی 2023	اہیلنٹ ٹریبونل ان لینڈریونیو	2016	45.6 ملین روپے	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
14 نومبر 2022	سندھ ہائی کورٹ	2019	نا قابل اطلاق	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔
15 دسمبر 2022	سندھ ہائی کورٹ	2016	نا قابل اطلاق	زیر التواء	انتظامیہ کو یقین ہے کہ کیس کا فیصلہ کمپنی کے حق میں ہوگا۔

6.2 گزشتہ تین سالوں کے دوران کمپنی یا کمپنی کی ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں کے خلاف سیکورٹیز ایکٹیوٹی کی جانچ کی جانب سے قانونی ضابطوں کی عدم تعمیل کی وجہ سے کی گئی کارروائی۔
نہیں

6.3 کمپنی، اس کے اسپانسرز، بنیادی شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور اس سے ایسوسی ایٹڈ کمپنیوں، جس پر کمپنی کا کنٹرول ہو کیلئے عمومی کاروبار کے علاوہ کوئی بھی بقایا قانونی کارروائی، اس سے اجراء پر مواد کا اثر پرسلتا ہے۔

نہیں

7 دستخط کنندگان برائے پیشکش کی دستاویز

Sd/-

عبدالرزاق دیوان چیرمین	شمیر دیوان چیف ایگزیکٹو آفیسر	زکریا بلوانی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر
محمد اقبال بلوانی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	ثاقب ہارون بلوانی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	محمد توفیق بلوانی ایگزیکٹو ڈائریکٹر
محمد الطاف بلوانی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر	طلعت اقبال آزاد ڈائریکٹر	محمد طفیل اقبال آزاد ڈائریکٹر
	ہارن فیک آزاد ڈائریکٹر	

ضمیمہ A

گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ ("کمپنی") کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے جمعرات، دسمبر 14، 2023 کو 14 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور نمبر 18، بیومونٹ روڈ، سول لائنز-10، کراچی میں منعقدہ اجلاس میں منظور کردہ قراردادوں کا اقتباس۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک اجلاس 14 دسمبر 2023 بروز جمعرات دوپہر 1:00 بجے 14 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور نمبر 18، بیومونٹ روڈ، سول لائنز-10، کراچی میں منعقد ہوا۔

اجلاس کے دوران، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی جانب سے رائٹ ایشو کے ذریعے مزید شیئر کیپٹل کے مجوزہ اجراء پر تبادلہ خیال کیا اور اس کی منظوری دی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مطلع کیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("کمپنیز ایکٹ") اور کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020 ("ضابطے") کی تمام ضروریات کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غور کیا اور کمپنی کی جانب سے اس کی مناسب تعمیل کا ارادہ کیا۔

اسی مناسبت سے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے درج ذیل قراردادیں منظور کیں۔

"قرار پایا کہ کمپنی کا عام ادا شدہ شیئر کیپٹل -/767,289,600 روپے (سات سو ساٹھ ملین دو سو چوراسی ہزار چھ سو روپے) سے بڑھا کر -/1,087,289,600 روپے (ایک ارب ستاسی ملین دو سو چوراسی ہزار چھ سو روپے) کر دیا جائے، کمپنی کے مزید 32,000,000 (تیس ملین) عمومی حصص کے اجراء کے ذریعے، جن کی قیمت -/10 (روپے دس) ہر ایک ہے، کمپنی کے حصص یافتگان کو کمپنیز ایکٹ کے سیکشن 83 اور تمام قابل اطلاق قوانین کے مطابق ہر ایک شیئر ہولڈر کے پاس موجود حصص کی تعداد کے تناسب سے پیش کیا جائے گا (یعنی رائٹ شیئرز کے طور پر)، -/175 روپے (ایک سو چھتر روپے) فی شیئر کی قیمت پر (یعنی -/165 روپے (ایک سو پینسٹھ روپے) فی شیئر کے پریم سمیت) تقریباً 41.7052 رائٹ حصص کے تناسب میں ہر 100 عام حصص کے لیے -/10 روپے (دس روپے) ہر ایک کتاب بند ہونے کی تاریخ سے فوراً پہلے (یعنی 41.7052 فیصد) سبسکرائب شدہ حصص کی قیمت کی کمپنی کو ادا کیگی، جس کے حصص کو کمپنی کے موجودہ عام حصص ("رائٹ ایشو") کے ساتھ ہر لحاظ سے پاری پاسو کا درجہ دیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ رائٹ ایشو کی مقدار، حجم، قیمت اور مقصد، بشمول آمدنی کا استعمال، کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز کو اس کے فوائد، رائٹ ایشو سے وابستہ خطرے کے عوامل، پریمیم پر حصص کے اجراء کا جواز، اور سبسکریپشن کی کم از کم رقم، ضوابط کے ضوابط (iii) (1) کے مطابق درج ذیل ہیں۔

(a) رائٹ ایشو کی مقدار (یعنی موجودہ ادا شدہ سرمائے کے فیصد کے طور پر):

رائٹ ایشو کی مقدار کمپنی کے موجودہ ادا شدہ سرمائے کا تقریباً 41.7052 فیصد ہے یعنی تقریباً 41.7052 رائٹ حصص ہر 100 عام حصص کے عوض جو کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے پاس کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک کے بند ہونے سے فوراً پہلے ہوں۔

(b) رائٹ ایشو سائز:

کمپنی 32,000,000 (تیس ملین) عام حصص، روپے -/175 (ایک سو چھتر روپے) فی حصص کی قیمت، مجموعی طور پر -/5,600,000,000 (روپے پانچ ارب چھ سو ملین) جاری کرے گی۔

(c) رائٹ ایشو کی قیمت:

-/175 روپے (ایک سو چھتر روپے) فی حصص (یعنی -/165 روپے (ایک سو پینسٹھ روپے) فی شیئر بشمول پریمیم۔

(d) رائٹ ایشو کا مقصد:

رائٹ ایشو کا مقصد کمپنی کی ورکنگ کپیٹل کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جو کاروبار کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ کمپنی کی وسیع تر حکمت عملی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے تاکہ منافع میں اضافہ ہو اور اس کے نتیجے میں، زیادہ سے زیادہ حصص یافتگان کو زیادہ منافع ادا کیا جاسکے۔

(e) رائٹ ایشو کی آمدنی کا استعمال:

رائٹ ایشو سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کمپنی کے ورکنگ کپیٹل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ ہموار آپریشنز اور فروخت کی بہترین سطح کو یقینی بنایا جاسکے، جس سے کاروبار میں مسلسل ترقی ہو۔

(f) کمپنی اور شیئر ہولڈرز کے لیے فوائد:

ملک کے موجودہ معاشی ماحول میں، جہاں شرح سود میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، کمپنی کی ورکنگ کپیٹل کی ضروریات کو زیادہ تر بینک/مالیاتی ادارے کے قرض کے ذریعے فنڈ دینا ایک قابل عمل یا سمجھدار آپشن نہیں ہے۔ نتیجتاً، ورکنگ کپیٹل کے مقاصد کے لیے استعمال کیے گئے ایکویٹی سے جمع شدہ فنڈز ایک زیادہ سمجھدار کاروبار اور حکمت عملی ہے، جو مالیاتی اخراجات کو کم کرے گا۔ اسی سے منافع پر مثبت اثر پڑنے کی توقع ہے، بالآخر شیئر ہولڈرز کے لیے بہتر نتائج پیدا ہوں گے۔

(g) رائٹ ایشو سے وابستہ خطرے کے عوامل، اگر کوئی ہے:

کمپنی کا رائٹ ایشو اس قیمت پر کیا جا رہا ہے جو مارکیٹ میں موجودہ حصص کی قیمت سے کم ہے اور اس لیے رائٹ ایشو کے ساتھ کوئی بڑا سرمایہ کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ کمپنی کے اہم شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز نے تصدیق کی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ استحقاق کو سبسکرائب کریں گے (یا سبسکریپشن کا بندوبست کریں گے) جبکہ رائٹ ایشو کا بیلنس حصہ قابل اطلاق قوانین کے مطابق انڈر رائٹ کیا جائے گا۔ کاروبار سے وابستہ عام خطرات برقرار رہیں گے۔ تاہم، کمپنی کا خیال ہے کہ یہ ایک ثابت شدہ ٹریڈ ریکارڈ کے ساتھ مارکیٹ میں اچھی طرح سے موجود ہے، جو اس طرح کے خطرات کے عوامل کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔

(h) پریمیم پر حصص کے اجراء کا جواز:

رائٹ ایشو کا پریمیم کے ساتھ اجراء کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے حصص کی موجودہ مارکیٹ قیمت پر غور کرتے ہوئے، پارویلیو سے زیادہ چارج کیا گیا پریمیم جائز ہے اور مارکیٹ کے عمل کے مطابق ہے، درحقیقت یہ گزشتہ 3 (تین) ماہ کی اوسط تجارتی حصص کی قیمت پر تقریباً 26.47 فیصد رعایت پر مشتمل ہے۔

(i) سبسکریپشن کی کم از کم رقم

کوئی نہیں۔

مزید یہ قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (2) 83 کے تحت تجویز کردہ پیشکش کا خط، قابل اطلاق قوانین کی تعمیل میں، کمپنی کے کسی بھی 2 (دو) ڈائریکٹرز کے ذریعے جاری/دستخط کیا جائے گا۔

مزید یہ قرار پایا کہ جناب شبیر دیوان - چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا جناب محمد اقبال بلوانی - ڈائریکٹر، کمپنی کے تمام ڈائریکٹرز کی جانب سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق حتمی شکل دینے کے بعد پیشکش کے لیٹر کے ساتھ سرکلر پر دستخط کرنے کا ضوابط کے تحت اختیار دیا جاتا ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ تمام فریکیشنل استحقاق، اگر کوئی ہیں، کو کمپنی سیکریٹری (ٹرسٹ کے تحت) کے نام پر اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے رائٹ کے لیٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ ("PSX") پر فروخت کیے جائیں گے، جس کی خالص آمدنی، ریگولیشنز کے مطابق حقدار حصص یافتگان کو ان کے متعلقہ استحقاق کے تناسب سے تقسیم/ادائیگی کی جائے گی۔

مزید یہ قرار پایا کہ کسی بھی غیر سبسکرائب شدہ حصص جن کو کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (iv)(a)(1)83 کے مطابق ڈائریکٹرز مناسب سمجھیں، جن میں اسپانسرز، ڈائریکٹرز، کمپنی کے متعلقہ ادارے یا کسی تیسرے فریق کو انڈرائیٹرز کو رجوع کرنے سے پہلے پیش کر سکتے ہیں۔

مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکرٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہدایت پیش کی دستاویز/خط کو تیار کرنے، اس پر نظر ثانی کرنے اور اسے حتمی شکل دینے اور اسے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") اور PSX کے ساتھ شیئر کرنے اور SECP اور PSX کے مشاہدات اور تبدیلیوں کی بنیاد پر ان پر نظر ثانی کریں، جو کہ ان کی طرف سے مناسب سمجھا جائے، ضابطوں کے تحت تجویز کردہ طریقے سے، اس سلسلے میں دیگر ضروری دستاویزات تیار کرنے اور جمع کرانے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ جبکہ ڈرافٹ آفر لیٹر PSX کی ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا، اس پر عوامی تبصرے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو اور/یا کمپنی سیکرٹری اور/یا چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہدایت انفرادی طور پر کمپنی کی جانب سے اور اس کے نام پر، تمام یا مندرجہ ذیل میں سے کسی بھی امور کی انجام دہی کے مجاز ہیں:

- (i) رائٹ ایشو کے لیے کنسلٹنٹس/ایڈوائزرز/آڈیٹرز اور انڈرائٹرز (ز) کے ساتھ تقرری/مذاکرات، شرائط و ضوابط کو حتمی شکل دینے اور انڈرائٹرز (معاہدوں) (معاہدوں)، دیگر دستاویزات پر دستخط کرنے اور فیس، انڈرائٹرز کمیشن، کمیشن لینے اور فریق ثالث کے اخراجات اور/یا رائٹ ایشو سے متعلق کسی دوسرے اخراجات کا تصفیہ/حتمی شکل دینا؛
- (ii) ادائیگی کی تاریخ سمیت رائٹ شیئرز کے اجراء کا شیڈول تیار کرنا، اور مذکورہ شیڈول میں کوئی ترمیم کرنا، اس معاملے پر بینکرز کی تقرری، کتاب کی بندش کی تاریخوں کا اعلان کرنا (اور ترمیم کرنا)، اور رائٹ ایشو اور اس سے متعلق ذیلی امور کے سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنا، جیسا کہ PSX، SECP، سنٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ("CDC") (جس میں CDC کے سنٹرل ڈپازٹری سسٹم میں رائٹ شیئرز کی پیشکش شامل کرنا بھی شامل ہے، لیکن اس تک محدود نہیں ہے) یا کسی اور اتھارٹی/باڈی کو مطلوب ہے؛
- (iii) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتابوں کو بند کرنے کا، اس کی تاریخوں سمیت، رائٹ ایشو کے حوالے سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے استحقاق کا تعین کرنے کے لیے فیصلہ اور اعلان کرنا؛
- (iv) رائٹ شیئرز کی سبسکرپشن سے موصول ہونے والی رقم کے مقصد کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولنا، برقرار رکھنا، چلانا اور بند کرنا؛
- (v) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے ایک بار الاٹ کیے جانے والے رائٹ شیئرز کو کریڈٹ کرنے اور ریٹرن/دستاویزات فائل کرنا جیسا کہ CDC/PSX/SECP کو آڈیٹر کے سرٹیفیکیٹس کے ساتھ ضروری ہے؛ اور
- (vi) آفر لیٹر/دستاویز کو تیار کرنے/حتمی شکل دینے کے لیے دیگر تمام ضروری اقدامات کرنا، رائٹ شیئرز اور دیگر دستاویزات کے اجراء اور مذکورہ دستاویزات میں کوئی ترمیم کرنے کے لیے سرکلر اور شیڈول اور تمام ضروری کارروائی کرنا جو اس سلسلے میں درکار ہو بشمول کسی بھی دستاویزات پر عمل درآمد اور معاہدوں یا مندرجہ بالا قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدام کرنا۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ مذکورہ بالا گیارہون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ جمعرات 14 دسمبر 2023 کو 14 ویں منزل، جی اینڈ ٹی ٹاور نمبر 18، بیومونٹ روڈ، سول لائنز-10، کراچی سے صحیح اور درست اقتباس ہے۔

Sd/-

محمد یاسین بلواری
کمپنی سیکرٹری

14 دسمبر 2023

ضوابط (vi)(3) کمپنیز (حصص کا مزید اجراء) ضوابط، 2020 کے تحت موجود تقاضوں کی تکمیل کا بیانیہ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے موصول ہونے والے تبصروں کے سلسلے میں اس کے 19 جنوری 2024 کے لیٹر کے ذریعے

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 83 کے تحت مسودہ سرکلر پراوردیے گئے تبصروں کی بنیاد پر سرکلر میں کی گئی تبدیلیاں

نمبر شمار	فرد کا نام	موصولہ تبصرہ	آیا کمپنی تبصرے سے متفق/غیر متفق ہے	مجوزہ تبدیلی، اگر اتفاق ہے	عقلیت
1		کور صفحہ			
i	سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان	حتمی پیشکش خط کی تاریخ، کتاب کی بندش، سبسکریپشن کی رقم کی ادائیگی، اور حتمی دستاویز میں شامل کیے جانے والے رائٹس کا لیٹر	منظور	شامل	تاریخیں داخل کی گئیں۔
ii	سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان	آفر لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مکمل لنک داخل کریں۔	منظور	شامل	آفر لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مکمل لنک داخل کر دیا گیا ہے۔
2		CEO اور CFO کی جانب سے انڈر ٹیکنگ			
		حتمی دستاویز میں انڈر ٹیکنگ پر متعلقہ دستخط کنندگان کے دستخط ہوں گے۔	منظور	داخل	دستخط شدہ معاہدہ شامل کیا گیا ہے۔
3		بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے انڈر ٹیکنگ			
i		شیڈول I کی انڈر ٹیکنگ کی شق viii حتمی پیشکش دستاویز (OD) میں بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) کے ذریعے انڈر ٹیکنگ میں شامل کی جائے گی۔	منظور	شامل	بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے انڈر ٹیکنگ کی شق vii کا حوالہ دیں۔
ii		آفر دستاویز میں بورڈ کی جانب سے انڈر ٹیکنگ کی شق viii میں اس لائن کو حذف کر کے ترمیم کی جاسکتی ہے، "اگر اجراء کی رقم 750 ملین روپے سے زیادہ ہے یا رائٹ شیئرز جاری کرنے والی لسٹ کمپنی کے ادا شدہ سرمائے کا 50 فیصد، جو بھی زیادہ ہو۔"	منظور	سرخذف	بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈر ٹیکنگ کی شق IX کا حوالہ دیں۔
iii		حتمی OD میں متعلقہ دستخط کنندگان کے ذریعے انڈر ٹیکنگ پر دستخط کیے جائیں گے۔	منظور	شامل	دستخط شدہ معاہدہ شامل کیا گیا ہے۔
4		تکنیکی اصطلاحات اور تعریفوں کی لغت			
i		PSX کے ساتھ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن۔	منظور	تفصیلات شامل	تکنیکی اصطلاحات کی لغت دیکھیں
ii		جدول میں "ضابطے" کی تعریف "کمپنیاں (حصص کے ضوابط کا مزید اجراء)، 2020 کے طور پر کی جائے گی۔"	منظور	ترمیم	تکنیکی اصطلاحات کی لغت دیکھیں
5		ڈرافٹ آفرنگ دستاویز میں رائٹ ایشو کی نمایاں خصوصیات			
i		سیکشن 1.1(d) صحیح مسئلہ کی قیمت کے تعین کی بنیاد: a 14 ستمبر 2023 سے 13 دسمبر 2023 (BOD اجلاس کے اعلان سے ایک دن قبل) کے آخری تین مہینوں کی اوسط حصص کی قیمت 1 ستمبر 2023 سے 30 نومبر 2023 کے بجائے استعمال کی جائے گی۔ b فوٹ نوٹ میں واضح طور پر ڈسکاؤنٹ فیصد کے حساب کتاب کو ظاہر کریں جو بورڈ قرارداد کی تاریخ سے قبل کے پچھلے تین مہینوں کی اوسط مارکیٹ قیمت کی نشاندہی کرتا ہے۔	منظور	تبدیلی کردی گئی	14 ستمبر 2023 سے 13 دسمبر 2023 تک تین ماہ کی اوسط حصص کی قیمت استعمال کی گئی ہے۔ فوٹ نوٹ میں ذکر کردہ رعایت کے فیصد کا حساب۔

ii	سیکشن (g) 1.1 بورڈ اجلاس میں شرکت کرنے والے ڈائریکٹرز کے نام: انکشاف کریں کہ نیا BOD صحیح الیشو کے اعلان کے بعد تشکیل دیا گیا تھا اور اس سیکشن کا حوالہ دیں جہاں نئے BOD کے نام فراہم کیے گئے ہیں۔	منظور	تفصیل شامل	فوٹ نوٹ SECP کے تبصروں کے مطابق شامل کیا گیا۔
iii	سیکشن (B) 1.2: رائٹ الیشو کے مقصد سے متعلق اضافی انکشاف (a) ٹیبل کا پوائنٹ 1: ورکنگ کیپیٹل کے ہر زمرے کے لیے درکار رقم کا الگ الگ انکشاف کریں۔ (b) ٹیبل کا پوائنٹ 2: 5.6 بلین روپے کے ورکنگ کیپیٹل کی ضرورت کے تخمینے کی بنیاد اور ورکنگ کیپیٹل کے ہر جزو میں ٹیبلر شکل میں لگائی جانے والی تخمینہ رقم کا انکشاف کریں۔ (c) ٹیبل کا پوائنٹ 3: • ظاہر کریں کہ صلاحیت میں اضافہ کیسے حاصل کیا جائے گا۔ • پوائنٹ 1.3 میں بیان کردہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ پیداواری صلاحیت کو ہم آہنگ کریں۔	منظور	تفصیل شامل	(a) آمدنی کی رقم جو ٹیبلر شکل میں ظاہر کی گئی ہے۔ (b) پہلے ہی سیکشن (a) 1.2(B) کے پوائنٹ 1 میں شامل ہے۔ (c) • صلاحیت میں اضافے کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ • پیداواری صلاحیت کو جوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ پوائنٹ 1.3 میں بتایا گیا ہے۔
iv	سیکشن 1.3: رائٹ الیشو سے پیدا ہونے والے مالی اثرات (a) وضاحت کے لیے فوٹ نوٹ میں بریک اپ ویلیو نی شیئر (پری اور پوسٹ الیشو)، گیزرنگ ریشو (پری اور پوسٹ الیشو) اور مارکیٹ شیئر فیصد کا ماخذ ظاہر کریں۔ (b) الیشو سے پہلے اور بعد میں پیداواری صلاحیت کا انکشاف کریں۔	منظور	تفصیل شامل	a فوٹ نوٹ نے فوٹ نوٹ میں حساب اور مارکیٹ شیئر کا ذریعہ شامل کیا۔ b الیشو سے قبل اور بعد پیداواری صلاحیت کے حوالے سے، یہ وہی رہے گی کیونکہ فنڈز کو ورکنگ کیپیٹل کی ضروریات کیلئے استعمال کیا جائے گا۔
v	سیکشن 1.4 کے جدول میں، انڈر رائٹنگ کمیشن کو حتمی OD میں ظاہر کیا جانا چاہیے۔	منظور	شامل	انڈر رائٹنگ کمیشن فیصد کا ذکر کیا گیا ہے۔
vi	سیکشن 1.5 کے جدول میں، انڈر رائٹرز میں سے ہر ایک کی طرف سے انڈر رائٹ کی جانے والی رقم کو حتمی OD میں ظاہر کیا جائے گا۔	منظور	شامل	انڈر رائٹرز میں سے ہر ایک کے ذریعہ ظاہر کی گئی رقم۔
vii	سیکشن 1.6 کے ٹیبل کو حتمی OD میں ڈائریکٹرز اور کافی شیئر ہولڈرز کے ذریعے اپنا حصہ سبسکرائب کرنے یا دوسرے افراد کے ذریعے اس کی سبسکرائبیشن کا بندوبست کرنے کے معاہدے کی روشنی میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ نیز ان افراد کے نام اور شیئر ہولڈنگ (پیشگی اور پوسٹ الیشو) کا انکشاف کریں جو کہ ڈائریکٹرز/کافی شیئر ہولڈرز کے بجائے شیئررز سبسکرائب کر رہے ہیں۔	منظور		سیکشن 1.6 میں ٹیبل کے بعد ایک وضاحتی نوٹ شامل کیا گیا ہے کیونکہ اصل سبسکرائبیشن اور شیئر ہولڈنگ پوزیشن کو حتمی شکل نہیں دی گئی ہے اور اس کی تاریخ کو اس کا تعین نہیں کیا جاسکتا ہے۔
viii	سیکشن 1.8 کے جدول کو حتمی OD میں ہر مرحلے کے دن اور تاریخوں کا انکشاف کرتے ہوئے اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔	منظور		تفصیلات شامل کر دی گئی ہیں۔
6	سیکرائبیشن کی رقم ادائیگی کا طریقہ کار			

		متعلقہ تاریخیں پوائنٹ (a)، (e) اور (f) میں ڈالی جائیں گی اور پوائنٹ (b) پر رائٹ سبسکریپشن کی درخواست ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے مکمل لنک ظاہر کیا جائے گا۔	منظور	شامل	تفصیلات شامل کردی گئی ہیں۔
7		کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اسپانسرز کے پروفائلز			
		پوری دستاویز میں 'اغنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ' کے سچے کو دوبارہ چیک کریں کیونکہ یہ متعلقہ کمپنی کے ذریعہ جمع کرائے گئے فارم A میں 'اغنی اینڈ ٹیب (پرائیویٹ) لمیٹڈ' کے طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔	منظور	تفصیح کردی گئیں۔	املا درست کردی گئی۔
8		جاری کنندہ کی مالی تفصیلات			
		i سیکشن 4.1 کے جدول میں، پچھلے تین سالوں کے جمع شدہ منافع کا اعداد و شمار شامل کیا جائے گا۔ ii سیکشن 4.2 میں، ان کمپنیوں کے نام شامل کیے جائیں گے جن کے لیے مالیاتی گوشوارے تیار کیے گئے ہیں۔ iii سیکشن 4.4 میں، گزشتہ چھ ماہ کے دوران جاری کنندہ کے حصص کی اوسط مارکیٹ قیمت کے حساب کتاب کی تاریخ کا انکشاف کیا جائے گا۔	منظور	متعلقہ تفصیلات شامل کی گئیں۔	i پچھلے تین سالوں کے لیے غیر مختص شدہ منافع کے اعداد و شمار شامل کیے گئے۔ ii ان کمپنیوں کے نام شامل کیے گئے ہیں جن کیلئے مالیاتی گوشوارے تیار کیے گئے ہیں۔ iii پچھلے چھ مہینوں کے دوران شیئر کی اوسط مارکیٹ قیمت کے حساب کے لیے تاریخ شروع کی گئی ہے۔
9		خطرات کے عوامل			
		i سیکشن 5.2 میں، اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے خطرہ کم کرنے والوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ii منافع کے خطرات میں، مالی سال 2023 کے مالی حسابات کے ساتھ پیشکش دستاویز میں ظاہر کردہ بعد از ٹیکس منافع کی قیمت کے حوالے سے تضاد کو درست کیا جائے گا۔ iii منافع کے خطرات میں، 'PFY' کی مکمل شکل، یعنی پولیٹر فلیمینٹ یارن، کو شامل کیا جائے گا۔ iv منفی آپریٹنگ کیش فلو کے خطرات میں، اسٹاک اور قرض دہندگان میں اضافے کی وجوہات کو ظاہر کیا جانا چاہیے۔	منظور	متعلقہ تفصیلات شامل کی گئیں۔	i خطرے کو کم کرنے والوں کو شامل کیا گیا۔ ii بعد از ٹیکس منافع نمبر درست کر دیا گیا۔ iii حتمی OD میں شامل کردہ مخفف کی مکمل شکل iv اسٹاک اور قرض داروں میں اضافے کی وجوہات سامنے آگئیں۔
10		کمپنی کی بقایا قانونی کارروائی			
		سیکشن 6.1 میں، ضابطوں کے شیڈول 1 کے (iii) 12 میں دی گئی مقررہ شکل میں قانونی کارروائی کا انکشاف کریں	منظور	تفصیلات شامل	اس کے باوجود کہ کمپنی کی تمام قانونی کارروائیاں معمول کے مطابق کاروبار میں ہیں اور کمپنی کے آڈٹ شدہ کھاتوں میں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں؛ کچھ قانونی کارروائیوں کی تفصیلات شامل کی گئی ہیں۔

